



# مصدر قات تاج الشریعہ

مرتب

معظم بیگ رضوی

ناشر

معظم بیگ رضوی برمی شریف

موباکل نمبر: 9219549711

مصدقات تاج الشریعہ

مرتب  
معظم بیگ رضوی

ناشر

معظم بیگ رضوی

محلہ بخار پورا پرانا شہر بریلی شریف

موبائل نمبر: 9219549711

(۱۴۱۹)

نام کتاب	:-	مصدقات تاج الشریعہ
مرتب	:-	معظم بیگ رضوی
تصحیح	:-	حضرت مولانا قاری عبدالرحمن خاں قادری
کپوزنگ	:-	مدرس منظرا اسلام بریلی شریف
صفحات	:-	مولانا محمد شفیق الحق رضوی
تعداد	:-	۹۶
سن اشاعت	:-	۱۱۰۰
قیمت	:-	۲۰۱۵ روپے برابر طابق ۱۳۳۷ء

نوٹ: اگر کسی صاحب کو اردو، ہندی، انگلش، عربی، فارسی، یا اردو و مضافاً میں کو ہندی میں مناسب ریٹ پر ثانپ کرانی ہو تو ضرور ایک بار خدمت کا موقع دے۔

پختہ: چک محمود پرانا شہر بریلی شریف  
 مولانا محمد شفیق الحق رضوی  
 موبائل نمبر: 9997662550

## و عائیہ کلمات

از: جانشین مفتی اعظم ہندستان الشریعہ  
 حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خاں صاحب قبلہ قادری از ہری  
 دامت برکاتہم العالیہ

بسم الله الرحمن الرحيم  
 مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ جناب معظم بیگ رضوی صاحب  
 مرکزی دارالاوقاء کے کچھ منتخب فتاویٰ کا مجموعہ جن پر میری تصدیق بھی ہے  
 شائع کرنے جا رہے ہیں:  
 مولیٰ تعالیٰ ان کی یہ کوشش قبول فرمائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ  
 دین متن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل میں  
 اضافہ فرمائے

آمین بجاه انبیاء الکریم علیہ وآلہ واصطہ و اکرم لسلام  
 محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ

۳۰ مرجمادی الآخرہ ۱۴۲۷ھ مطابق ۲۰ اپریل ۱۹۰۸ء

بریلی شریف

بقلم: عاشق حسین کشمیری استاد جامعہ الرضا بریلی شریف

## عرض ناشر

مرکز اہل سنت بریلی شریف کو یہ طرہ امتیاز حاصل ہے کہ جب جب اسلامیان ہند کی طرف کفر و ضلالت اور ظلم واستعداد کے طوفانوں نے رخ کیا تب اس نے اپنے ظلم و عرفان اور عشق و ایمان کی ہمدردی تو انہیوں کو بروئے کار لائکر اس با دجالف کارخ مکسر موز دیا اور ملت کے ایمان و اسلام کی قابل تقلید حفاظت و صیانت کا اہم فریضہ انجام دیتے ہوئے جب جب جس جس وقت جس حریے کی ضرورت پڑی بروقت فراہم کیا۔

جاہد جنگ آزادی حضرت علامہ مفتی محمد رضا علی خاں بریلوی قدس سرہ العزیز نے فتویٰ نویسی کا آغاز ۱۲۳۶ھ ۱۸۲۱ء میں فرمایا اور تادم واپسی یعنی ۱۲۸۵ھ ۱۸۶۴ء تک ۳۲ سال یہ خدمت جلیلہ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ حضرت علامہ محمد رضا علی خاں کا ایک فتویٰ ہمارے خاندان میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے میرے جدا مجدد مرضیح اللہ بیگ اپنے زمانہ کے مشہور حکیم اور زبردست عالم تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے استاد مرضیح اللہ امدادی علام قادر بیگ علیہ الرحمہ مرضیح اللہ بیگ کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔

عہد آصفیہ میں جب رافضیت کو فروغ ہوا تو کچھ غیر پختہ عقیدہ افراد نے جامع مسجد بریلی کے ٹھن کے بعد شرق کی جانب سر دری میں علم اور تعزیے رکھ دیئے جب مرضیح اللہ جامع مسجد کے متولی مقرر ہوئے تو آپ نے وہ تعزیے اور علم وہاں ہٹوادیئے چنانچہ یہ افراد متولی مذکور کے زبردست مخالف ہو گئے بڑا واویا چاہیا اور متولی مذکور کو بزم عم خود بد عقیدہ کہا جانے لگا تو اس وقت حضرت علامہ رضا علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا۔ کہ متولی کا القdam صحیح ہے متولی مسجد صحیح العقیدہ

سی خنی ہیں اور مسجد کی عمارت میں امام باڑہ ختم کرنا شرعاً جائز ہے۔ یہ فتویٰ کرم خودہ آپ کے پوتے اور میرے عم مکرم مرزا عبد الوحید بیگ کے پاس آخر وقت تک موجود تھا۔

مولانا رضا علی خاں علیہ الرحمہ کے صاحبزادے مفتی محمد تقیٰ علی خاں علیہ الرحمہ نے فتویٰ نویسی کی شروعات اپنی تعلیم و تربیت سے فراغت کے بعد تقریباً ۱۸۷۴ء میں فرمائی اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک یعنی ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ء تک قریب ۳۳ سال اس کام کو انجام دیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ نویسی کا آغاز ۱۲۸۲ھ / ۱۸۶۵ء میں ہمدر ۱۳ سالہ رضاعت سے فرمایا اور تھیات یعنی ۱۲۹۰ھ / ۱۸۷۳ء تک ۵۲ سال یا ہم ذمہ داری بے لوث انجام دیتے رہے۔

اعلیٰ حضرت کی کتاب تحملی الیقین بان بنينا سيد المرسلين مرزا غلام قادر بیگ کے ایک سوال کی یاد گاری ہے۔ ملک العلماء حضرت علامہ مفتی محمد ظفر الدین رضوی بہاری علیہ الرحمہ حیات اعلیٰ حضرت حصہ اول ص ۹۱ میں ارشاد فرماتے ہیں:

میں نے جناب مرزا صاحب مرحوم و مغفور کو دیکھا تھا۔ گورا چٹارنگ، عمر تقریباً ۸۰ سال، داڑھی اور سر کے بال ایک ایک کر کے سفید، عمامہ باندھے رہتے، جب کبھی اعلیٰ حضرت کے پاس تشریف لاتے اعلیٰ حضرت بہت ہی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آتے۔ اعلیٰ حضرت ان کی بات بہت مانا کرتے، جب کوئی اہم کام سمجھا جاتا لوگ حضرت مرزا مرحوم کو سفارشی لاتے۔ ان کی سفارش کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اعلیٰ حضرت ان کا بہت زیادہ خیال کرتے، اور وہ جو کچھ فرماتے ان کی فرمائش قبول فرماتے۔ بڑے صاحب تقویٰ اور اعلیٰ حضرت کے

فدا کی اور جاں شار تھے۔

ہم بیان کرچکے ہیں کہ مرزا غلام قادر بیگ اور مطیع اللہ علیہ کو کچھ مولویوں نے بھائی تھے۔ ۱۳۰۵ھ میں مرزا غلام قادر بیگ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ مولویوں نے پریشان کر دیا کہ حضور صرف رسول ہی ہیں سید المرسلین نہیں ہیں۔ تو مرزا غلام قادر بیگ علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ سے التماس کی ان نادانوں کی تسلی و شفی کے لیے قرآن و احادیث سے ثابت کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور سید المرسلین بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں یہ کتاب لکھی تھی۔ جس میں اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور رسول بھی ہیں اور سید المرسلین بھی ہیں۔ واضح ہو کہ مرزا غلام قادر بیگ کے خاندان میں ایک صاحب وہابی ہو گئے جس کی وجہ سے سنی دینیا کے اذیث مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی نے اپنی کتاب تذکرہ غلام قادر بیگ میں یہ لکھ دیا کہ موجودہ وقت میں اس خاندان کا عجیب حال ہے مجھے تجب ہے کہ ایک آدمی کے وہابی ہونے کی وجہ سے پورے خاندان کے بارے میں یہ کہنا اور لکھنا کہاں تک درست ہیں۔ اس کا فیصلہ میں علمائے دین پر چھوڑتا ہوں اور ویسے خود مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی اور ان کی کتابیوں کا کتنا عجیب حال ہے ضرورت پڑی تو دلائیں کے ساتھ بیان کروں گا بہر حال اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں۔

جمعۃ الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضا خاں علیہ الرحمۃ نے فتویٰ تویی کا آغاز ۱۳۰۵ھ میں فرمایا اور تا حین حیات یعنی ۱۴۲۳ھ تک ۱۹۳۳ء سے تک ۳۸ سال یہ خدمت انجام دیتے رہے تا جدار اہل سنت حضور مفتی عظیم ہند نے فتویٰ

نویسی کا آغاز ۱۹۶۲ء میں فرمایا اور تادم آخری یعنی ۱۹۷۲ء تک اے سال یہ عظیم ذمہ داری انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حضور تاج الشریعہ کا دور شروع ہوتا ہے آپ نے فتویٰ نویسی کا آغاز کر ۱۹۶۲ء میں فرمایا اور اب تک یہ سلسلہ زرین آج بھی جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ گویا خاندان رضا میں فتویٰ نویسی کی یہ ایمان افراد و روایات ایک سو تراہی (۱۸۳) سالوں سے مسلسل چل آ رہی ہیں۔ دنیا میں بہت کم خاندانوں کو یہ سرمدی سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ایک ہی خاندان اور ایک ہی نسل میں مسلسل کئی صد یوں تک علم و فضل شہرت شرافت کا در یا موجیں لیتا رہے اور کئی نسلوں تک بھی اس کی کوئی کڑی ٹوٹنے نہ پائے یہ سعادت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ کے خاندان کو حاصل ہے۔

حضور تاج الشریعہ نے ۱۹۸۲ء میں مرکزی دارالافتاء قائم فرمایا اس وقت دارالافتاء میں بانی مرکزی دارالافتاء فقیہ اعظم تاج الشریعہ کے علاوہ مفتی ہاظم علی قادری بارہ بنکی مفتی حکیم محمد مظفر حسین قادری، مفتی محمد افضل رضوی، مفتی محمد کوثر علی رضوی، مفتی محمد مناف رضوی، مفتی محمد غلام مصطفیٰ رضوی جو ملک اور بیرون ملک کے آئے ہوئے سوالات کے جواب عطا فرماتے ہیں۔

آج پورے ایشیا میں بریلی شریف مرکزی دارالافتاء کے فتاویٰ سنڈی حیثیت رکھتے ہیں اور اس میں بھی جواہیت و قوت و عظمت حضور تاج الشریعہ کے تحریر کردہ فتاویٰ کو حاصل ہے دنیا میں سنت کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے فتاویٰ کو حاصل نہیں حتیٰ کہ حضور تاج الشریعہ کی تصدیق جس فتویٰ پر ہو، اسے عوام تو عوام خواص بھی اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

اس لیے ہم نے مرکزی دارالافتاء کے بعض ان فتوں کو جمع کیا ہے جس میں حضور تاج الشریعہ کی تصدیق ہے اعلیٰ حضرت اور مرزا غلام قادر بیگ سے لیکر

حضور تاج الشریعہ اور رقم تک جو محبت کا سلسلہ جاری ہے اس کتاب کو اسی محبت کے سلسلے کی یادگار سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو مسلک اعلیٰ حضرت اور حضور تاج الشریعہ کی محبت عطا فرمائے۔ اور ساتھ یہی میں مرکزی دارالافتاء کے مفتی جناب محمد افتخار رضوی صاحب اور جناب مفتی کوثر علی رضوی اور جناب مفتی مناف صاحب کا مشکور ہوں، کہ انہوں نے اپنے وہ فتوے مجھے عنایت کئے جس پر حضور تاج الشریعہ کی تقدیق موجود ہے اور رقم الحروف مشکور ہے منظراً اسلام کے استاد مولانا قاری عبدالرحمن صاحب رضوی بریلوی کا جنہوں نے اس کتاب کی صحیح کے فرائض انجام دے کر میری ذمہ داری کو آسان کر دیا۔

اس کتاب کی صحیح پڑھی المقدور گہری نظر کھی گئی ہے پھر بھی اگر کوئی شرعی خاتم رہ گئی ہو تو ارباب فکر و دانش اس کی نشان دہی فرمادیں غلطی کی صحیح دوسرے اذیشن میں کر دی جائے گی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجموعہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور غوث اعظم، اعلیٰ حضرت ججۃ الاسلام حضور مفتی اعظم ہند، اور پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خاں قادری از ہری بریلوی مدظلہ العالی کے صدقے میں اس مجموعہ کو عوام و خواص نیز وجہ ہدایت و رہنمائی بتائے آمین ثم آمین۔

بحاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

معظم بیگ رضوی

بخار پورہ پرانا شہر بریلی شریف

۱۳۳۷ء ۲۰۱۵ھ بہ طایق

## (۱) صفات باری تعالیٰ سے متعلق اہل سنت کا عقیدہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین مسئلہ ذیل میں کہ:  
صفات باری تعالیٰ کے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ صفات  
باری تعالیٰ کو حکومت کرنے والے پر کیا حکم ہے؟

السائل

محمد زوالفقار

جعفر بن ابی جعفر الجعفی رضی اللہ عنہ فیض آباد

الجواب: اہلسنت کے اللہ عز و جل کی صفات کے تعلق سے یہ عقائد ہیں کہ  
(۱) اس کی کسی صفت میں کوئی اسکا شریک نہیں کما قال اللہ

تعالیٰ لا شریک له (پ ۸، الانعام: ۱۶۳) اور فرماتا ہے واله کم الہ  
واحد (پ ۲ البقرہ، ۱۶۳) تفسیر روح البیان میں آیتہ کریمہ قل هو اللہ  
احد کے تحت ہے الاحد اسم لمن لا یشارکہ شئی فی ذاتہ کما ان  
الواحد اسم لمن لا یشارکہ شیئی فی صفاتہ (ج ۱۰ ص ۵۳۶)

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے "سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون"

۳۰۰ پاکی اور برتری ہے اسے انکے شرک سے (کنز الایمان)

المعتقد المعتقد میں ہے قد اجمع المسلمون علی کونہ  
مخالف الغیرہ علی الاطلاق فهو منزه عن المثل ای المشارک فی  
تمام الماهیة (ص ۲۳) ان تمام نصوص سے معلوم ہوا کہ جیسے اسکی ذات  
شرک سے منزہ ہے ویسے ہی اسکی تمام صفات بھی شرک سے مبرأ ہیں لہذا  
اب اگر اسکی صفات میں کوئی کسی کو شرک تھہرائے تو ضرور یہ اسکا افتراء اور

وہ کافر، مشرک ہو گا۔

(۲) اس کی صفات شبیہ نظریہ مثل سے پاک ہیں آئیہ کریمہ ”قُلْ  
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ کے تحت حاشیۃ الصاوی علی تفسیر الحلالین میں  
ہے ”وَ قَوْلُهُ أَحَدٌ“ یدل علی الصفات السلبية وہی القدرة والبقاء  
والغتنی المطلق والتزہ عن التشییہ والنظریہ والمشیل فی الذات  
والصفات والافعال انه مخالف للحوادث غير مماثل لشیء منها  
فی الذات و الصفات والافعال (ص ۷۳۷ / ج ۳)

(۳) اس کے افعال کے ذریعہ سے ابھالا اس کی صفات کا علم ہوتا  
ہے پھر ان صفات سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے اس کو معرفت برہانیہ  
کہتے ہیں۔ المعتقد المعتقد میں ہے ”قِيلَ الْمَعْرِفَةُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ  
الْحَقِيقَةِ وَالْعِيَانَيْةِ وَالْكَشْفِيَّةِ وَالْبَرْهَانِيَّةِ وَهِيَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْدَلِيلِ  
الْقَطْعِيِّ وَجُودَهُ تَعَالَى وَمَا يُحِبُّ لَهُ وَمَا يُسْتَحِيلُ عَلَيْهِ“ (ص ۱۶)  
(۴) اسکی صفتیں نہ اس کے ذات کی میں ہیں نہ غیر شرح عقائد نفعی  
میں فرمایا ”وَهِيَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ يَعْنِي أَنَّ صَفَاتَ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ  
عَنِ الذَّاتِ وَلَا غَيْرُ الذَّاتِ“ (ص ۶۶)

(۵) اس کی ذات و صفات قدیم از لی ابتدی ذات و صفات کے سوا  
سب چیزیں حادث و نوپید ہیں۔ قال تعالیٰ ”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَّ وَ  
يَقْنَى وَجْهَ رَبِّكَ دُوَّالَحَلَالِ وَالْأَكْرَامِ.“ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے  
اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا (کنز الایمان)  
المعتقد المعتقد میں ہے ”وِيَالْحَمْلَةِ فَالَّذِي نَعْتَقِدُهُ فِي دِينِ

الله تعالى ان له عز و جل صفات ازلية قديمة قائمة بذاته عز و جل لوازم لنفسى ذاته تعالى و مقتضيات لها بحيث لا تقدير للذات بدونها۔ شرح عقائد میں ہے والعالم ای ما سوی الله تعالى من الموجودات مما یعلم به الصانع یقال عالم الاجسام و عالم الاعتراض و عالم النباتات و عالم الحیوان الى غيره ذلك فتخرج صفات الله تعالى لأنها ليست غير الذات كما أنها ليست عینها بجميع اجزاءه من السموات و ما فيها والارض وما عليها محدث ای مخرج من العدم الى الوجود بمعنى انه كان معدوماً فوجد (ص ٤٤)

اسی میں ہے ”صفة الله تعالى ازلية“

(۲) اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل اس لئے کہ ذیر قدرت ممکنات داخل ہوئے ہیں اور صفات باری تعالیٰ واجب ہیں کما ذکرت عليه جزئیاً آنفاً۔ واجب تحت قدرت داخل نہیں ہوتے قال في جميع الفرائد على حاشية شرح العقائد ”لا يخرج عن عليه شيء مما يمكن ان يتعلق به العلم ولا يخرج عن قدرته شيء من الامور الممكنة المقدرة“ (شرح عقائد ۶۳ مطبوعہ مجلس برکات مبارکبور)

لہذا جو صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کہے وہ گراہ بد دین ہے کیونکہ مخلوق ممکنات میں سے ہے۔ المعتقد المعتقد میں ہے صفات الله تعالى فی الازل غیر محدثة ولا مخلوقة فمن قال انها مخلوقة او محدثة او وقف فيها بان لا یحکم بانها قديمة او حادثة او شک

فيها او تردد في هذه المسئلة و نحوها فهو كافر بالله تعالى مگر احوط یہ ہے کہ جو صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کہے تو جس صفت کو مخلوق کہے اگر وہ ضروریات دین میں سے ہے تو وہ کافرونہ مگر اہم دین ہو گا۔

عبارت مذکورہ فی المعتقد کے تحت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قم طراز میں هذا نص سیدنا الامام الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفقه الکبر و قد تواتر عن الصحابة الکرام والتبعین العظام والمجتهدین الاعلام علیہم الرضوان التام اکفار القائل بخلق الكلام كما نقلنا۔

”نصوص کثیر منہم فی سبحان الشبوح عن عیب کذب مقبوح“ وهم القدوة للفقهاء الکرام فی اکفار کل من انکر قطعاً و المتكلمون خصوه بالضروری و هو الا حرط (المستند الحمد ص ۵۰) ایسا ہی بہار شریعت حصہ اول میں ہے واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ

محمد مناف رضوی مرکزی

خادم مرکزی دارالافتاء ۸۲ سوداگران بریلی شریف

صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری

صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

حکیم محمد مظفر حسین قادری

## (۲) ذا کرنا نک کی بکواس پر حکم شرعی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین سوالات ذیل میں کہ

(۱) یہ کہ مشہور بنام اسلامی اسکارڈ ذا کرنا نک نے اپنے

خطاب میں یہ جملہ کہا کہ "حضور مرچے ہیں ان سے مانگنا حرام اور شرک ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ان چھوٹے چھوٹے باباؤں (ولیوں) سنتوں کی کیا حیثیت ہے، ملخصاً۔ اسی دوران یہ بھی کہا کہ محمد رسول اللہ کو ماننا بھی

حرام ہے۔

(۲) یہ کہ ذا کرڈ ذا کرنا نک نے یہ بھی کہا کہ قرآن میں لفظ شفافا /۲۵۰/

بار آیا ہے شفافا کا مطلب وسیلہ اور آج کی تاریخ میں حضور کو بھی وسیلہ بنا حرام ہے البتہ جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ انہیں اختیار دیں گے۔ تب شفافعت کریں گے۔

(۳) یہ کہ ایک کلپنل ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی ہندور ہے ہوں گے وہ مندر میں جاتے تھے اور ہم مزار پر جار ہے ہیں لیکن مزار پر جانا حرام ہے وہ مر گئے ہیں ہم ان کے لئے تودعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ انہیں جنت دیدے رحمت دیدے وغیرہ وغیرہ لیکن ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے لئے دعا کروں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے۔

(۴) یہ کہ ذا کرڈ ذا کرنا نک کا یہ کہنا یزید امیر المؤمنین تھے حق پر تھے

اور یزید کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ بھی کہنا۔ اور یہ کہ مزر کہ کربلا کو سیاست و اقتدار کی جنگ قرار دینا کس حد تک درست ہے۔

(۵) یہ کہ دیوبند کے علماء اربعہ مکفرہ مشہورہ کو مسلمان جانتا ہے اور ان کے نام کو تنظیم و توقیر سے لیتا ہے۔ لہذا حضور والاسے گزارش یہ ہے کہ سوالات مذکورہ خمسہ کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں براہ کرم مرحمت فرمائیں۔ بنیوا تو جروا۔

### المستقی

عبد القادر حسینی

صدر: انجمن تحفظ شریعت لکھنؤ

۸۷۷ راجوab اللہم هدایۃ الحق والصواب: (۱) تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام خصوصاً حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات حقیقی، جسمانی دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، سنتے دیکھتے، جانتے ہیں۔ سلام کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں۔ مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں تصرفات فرماتے ہیں حدیث میں ہے (۱) عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق "حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پیشک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا حرام فرمادیا ہے تو اللہ کے نبی زندہ ہیں رزق دیئے جاتے ہیں (ابن ماجہ) (۲) عن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء "حضرت

اوں بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، (ابوداؤد، ابن ماجہ،نسائی، داری وغیرہا) (۳) عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورهم يصلون حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں (خصائص) علامہ علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں "الانبیاء فی قبورهم احیاء" انبیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور آگے تحریر فرماتے ہیں انه صلی اللہ علیہ وسلم حی برزق و يستمد منه المدد المطلق "بے شک حضور باحیات ہیں۔ انہیں روزی پیش کی جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کی مدد طلب کی جاتی ہے (مرقاۃ) شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پیغمبر خدا زندہ است حقیقت حیات دنیاوی خداۓ تعالیٰ کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور آگے تحریر فرماتے ہیں "حیات انبیاء متفق علیہ است یعنی کس رادروے غلائے نیست حیات جسمانی دنیاوی حقیقت نہ حیات معنوی روحانی چنانکہ شہدار است" انبیاء کرام کی حیات متفق علیہ ہے کسی کو اس میں اختلاف نہیں ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں (اعوذ لله عزوجل) علامہ خفاجی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورهم حیات حقیقة" انبیائے کرام علیہم السلام حقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں (نیم)

الریاض) علامہ شربلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: و ممما هو مقرر عند  
المحققین انه صلی الله علیه وسلم يرزق ممتع بحمیع الملاذ  
والعبادات غير انه حجب عن ابصار القاصرين عن شریف  
ال مقامات ” یہ بات محققین کے نزدیک ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ  
علیہ وسلم زندہ ہیں آپ کو رزق پیش کیا جاتا ہے اور آپ تمام خواہشات و  
عبادات سے لطف اندوڑ ہوتے ہیں لیکن جوان بلند مقامات تک رسائی  
حاصل کرنے سے قاصر ہیں ان کی نگاہوں سے آپ پوشیدہ ہیں (نور  
الایضاح) اس کے حاشیہ میں ناٹک جی کے گروہ کے مولوی محمد اعزاز علی  
دیوبندی رقم طراز ہیں ”قوله (حجب) فمثله صلی الله تعالیٰ علیہ  
وسلم بعد و فاته كمثل شمع فى حجرة اغلق بابها فهو مستور  
عنن هو خارج الحجرة ولكن نوره كما كان بل ازيد ولهذا  
حرم نكاح ازواجه بعده صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ولم يحر  
أحكام الميراث فيما ترکه لأنهما من أحكام الموت۔ (حاشیة نور  
الایضاح) احادیث مبارکہ اور اقوال ائمہ سے واضح ہو گیا کہ انبیاءؐ کرام  
خصوصاً حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبروں میں دنیاوی حقیقی  
زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور یہی عقیدہ حق ہے اس کا خلاف باطل و مردود  
ہے لہذا ذاکرناٹک کا قول ”حضور مرچکے ہیں“ باطل و مردود ہے اور خلاف  
سلف و خلف ہے۔ ہاں یہ بولی اسماعیل دہلوی کی ہے۔

اپنے اس مردود قول کی رو سے ذاکرناٹک اور اس کے ہم نواؤں کو  
اپنا کلمہ بھی بدلتا چاہیئے کلمہ توحید میں ”محمد رسول اللہ“ ہے یعنی محمد اللہ کے

رسول ہیں (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) جب ان کی رسالت باقی ہے تو یقیناً بلا شہر ان کی ذات باقی موجود ہے کیونکہ رسالت صفت ہے اور صفت کا وجود بغیر موصوف محال ہے۔ ”لَان الصِّفَاتُ لَا تَوْجُدُ بِدُونِ الْمُوصَفِ“ رہانی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگنا تو قرآن مجید میں ہے ”وَ امَّا السَّائِلُ فَلَا تَهْرُرْ“ اور متنجاً کو نہ جھڑ کو حاشیہ الصاوی علی الجلاسین میں ہے ”وَ وَجْدُكَ عَاثِلًا فَاغْنِي وَ الْمَعْنَى اغْنِ عَبَادِي وَ اعْطِهِمْ كَمَا اغْنَيْتُكَ وَ اعْطَيْتُكَ“ اور جہیں حاجت مند پایا ہم غنی کرو دیا اور مطلب یہ ہے کہ اے محبوب میرے بندوں کو غنی کجھے اور ان کو عطا کجھے جیسا میں نے تم کو غنی کیا اور عطا کیا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگنا حرام و شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس کا حکم نہ فرماتا۔ لہذا نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگنا ہرگز حرام و شرک نہیں بلکہ میں ایمان ہے اور اس کا یہ کہنا کہ ”محمد رسول اللہ کو ماننا حرام ہے“ کفر ہے اور قائل ذا کرنا اسک کافر ہے اور یہ بولی بھی اسماعیل دہلوی کی ہے اس نے لکھا ہے ”اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان“ (۲) الوسیلة ہی ماتقرب به الی الغیر جس کے ذریعہ کسی سے قرب حاصل کیا جائے اس کو وسیله کہتے ہیں (تعريفات) صحابۃ کرام بلکہ خود سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ مقررین خدا کو وسیله بنانا جائز ہے حدیث میں ہے عن عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ان رجلا ضریر البصر اتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال ادع اللہ ان یعافینی فقال ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فامرہ ان یتوضا فيحسن و ضوته ويصلی

رکعتین وید عوبهذا الدعاء اللهم انی استلک واتوجه اليک بنبیک  
 محمد صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نبی الرّحمة یا محمد انی  
 اتوجه بک الى ربی فی حاجتی هذه فيقضیها اللهم شفعه فی  
 فعل الرجل فقام و قد ابصر" حضرت عثمان بن حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
 سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی حضور شفیع المذینین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ  
 مجھے آنکھ والا کروے حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کروں  
 اور چاہو تو صبر کر لو کہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ عرض کیا کہ دعا  
 فرمائیں۔ حضور نے انہیں حکم دیا کہ اچھاوضو کرو اور دور رکعت نماز پڑھو اور یہ  
 دعا کرو اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
 وسلم کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں جو نبی رحمت ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے  
 وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اس حاجت میں تو وہ پوری ہوائے  
 اللہ میرے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرماتو وہ  
 صحابی جب آپ کے حکم کے مطابق کر کے کھڑے ہوئے تو آنکھ والے ہو  
 گئے تھے۔ (ترمذی، خصائص) اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حضور سید عالم  
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز  
 اور باعث قبولیت دعا ہے اگر حرام ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے  
 وسیلہ سید عاکرنے کے لئے ان نابینا صحابی کو ہرگز حکم نہ فرماتے۔  
 اور منصب شفاعت حضور شفیع المذینین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا  
 فرمادیا گیا ایسا نہیں کہ قیامت کے دن انہیں اختیار ملے گا جب شفاعت

فرمائیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”اعطیت الشفاعة“  
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ”واستغفرلذنبك وللمؤمنين  
والمؤمنات“ اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور  
عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ تفسیر خازن میں ہے ”واستغفرلذنبك  
ای لذنوب اهل بیتك و للمؤمنين و المؤمنات یعنی من غير اهل  
بیته وهذا اکرام من الله عز و جل لهذه الامة حيث امرني به صلی  
الله علیه وسلم ان يستغفر لذنوبهم و الشفيع المحاب  
فيهم“ شرع عقائد میں ہے ”الشفاعة ثابتة للرسل والآخيار“ مرتبہ  
شفاعت حضور شفیع المذاہبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے جب چاہیں  
جس کے لئے چاہیں شفاعت فرمائیں۔ ہاں قیامت کے دن شفاعت  
کبریٰ حضور کے خصائص سے ہے جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
باب شفاعت و انہیں فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی بلکہ حقیقت جتنے  
شفاعت کرنے والے ہیں وہ حضور کے دربار میں شفاعت لاٹیں گے اور  
مخلوقات میں سے صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور  
شفیع ہوں گے، بیشتر احادیث میں شفاعت کا صراحت ثبوت ہے ”شفاعت  
lahil kibair min amti“ میری امت کے بڑے گھنگاروں کے لئے میری  
شفاعت ہے۔ ہم گھنگاروں کے لئے ان کی شفاعت ہے منکر کے لئے نہیں  
دوسری حدیث میں اس کا صراحت ذکر ہے۔ ”شفاعتی یوم القيمة حق  
فمن لم یومن بها لم یکن من اهلها“ قیامت کے دن میری شفاعت  
حق ہے جو اس کو نہ مانے اس کا اہل نہیں ہو گا۔

(۳) مزارات صالحین و قبور مسلمین پر جانا جائز و سنت نبی خیر الامم ہے

حدیث میں ہے ”عن عائشة الصدیقة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کسان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلماً کان لیلتھا من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يخرج من اخر اللیل الی البقیع“ حضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جس رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بیہاں قیام فرماتے تو رات کے آخری حصہ میں انہوں کریبع ( مدینہ کا قبرستان) میں تشریف لے جاتے۔ (مسلم، مکملہ) عن محمد بن نعمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من زار قبر ابوبہ او احدهما فی کل جمعۃ غفرله و کتب برا“ ان احادیث سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک قبروں کی زیارت جائز ہے بلکہ جو شخص ہر جمعہ کو والدین کی قبروں کی زیارت کرے اس کے لئے مژودہ مغفرت ہے۔ اگر مزارات پر جانا حرام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیع شریف تشریف نہ لے جایا کرتے اور نہ ہی قبور والدین پر ہر جمع کو جانے والے بچوں کو مژودہ مغفرت عطا فرماتے۔

اور اہل مزار کے متعلق ناٹک بھی کایہ کہنا کہ ”ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے“ تو لجھے ناٹک بھی کے ہم مذہب سید احمد رائے بریلوی کے بھائی و مرید و خلیفہ سید محمد علی جو شیخ نجدی کے گروہ کے آدمی تھے ان کے اقوال تو شیخ نجدی کے اتباع اور ڈاکٹر ناٹک پر جھٹ ہو ٹکے وہ لکھتے ہیں: دریں منزل قریب نصف شب بوادی سرف کہ مزار فالپن الانوار جناب میمونہ علیہا و علی بعلها الصلاة والسلام من الله الملك العلام۔ رسید یم از اتفاقات

عجیبیہ آنکہ آں روز پہنچ طعام خورده بود یہم چوں از خواب آں وقت بیدار شوم از  
غایت گرنسی طاقتم طاق و رویم در حلق بود بطلب نان پیش ہر کس دو دیدم و  
بطلب نر سیدم بنا چار برائے زیارت در جھرہ مقدسہ فتحم و پیش تربت شریفہ  
گدا یا نہ ندا کردہ لفتم کہ ای جدہ امجدہ من مہمان شما ہستم چیزے خوردنی  
عنایت فرمادم از طاف کریمان نور منہا انگاہ سلام کردم و فاتحہ اخلاص  
خواندہ ٹوابش بروح پر فتوحش فرستادم انگاہ نشستہ سریہ قبرش نہادہ بودم از  
رزاق مطلق و داناے برحق دو خوشہ انگور تازہ بدستم افادہ طرف تر آنکہ آں  
ایام سرمابود و پہنچ جا انگور تازہ میسر نبود بحیرت افقادم و یکے ازاں ہر دو خوشہ  
ہموم جانشستہ تداول نموده از جھرہ بیرون شدم و یک یک از ہر یک را تقسیم  
کردم (مخزن احمدی) آدمی رات کے قریب ہم وادی سرف میں پہنچے  
جهان ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار فانقض الا نوار ہے اللہ تعالیٰ  
ان پر اور ان کے شوہر یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حمتیں نازل  
فرمائے۔ اتفاقاً اس دن ہمارے پاس کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہ تھا  
جب میں سو کراٹھا تو سخت بھوک لگی ہوئی تھی میری طاقت میں اصلاح لآ گیا  
تھا اور چہرہ کملہ گیا تھا۔ روٹی مانگنے کے لئے میں ہر کسی کے پاس گیا لیکن  
مطلوب کونہ پہنچا آخر بے بس ہو کر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار کی زیارت  
کے لئے گیا اور بانداز فقیر انہ صد الگائی اور عرض گزار ہوا اے میری وادی  
جان میں آپ کا مہمان ہوں کوئی چیز کھانے کی عنایت فرمائیں اور اپنے در  
اور لطف و کرم سے محروم نہ فرمائیں۔ پھر میں نے سلام عرض کیا اور فاتحہ پڑھ  
کر ان کی روح مبارک کو ٹواب پہنچایا اور آپ کی قبر انور پر سر رکھ دیا۔ اللہ  
تعالیٰ نے جو رازق مطلق ہے اور ہمارے احوال سے واقف ہے اس کی

طرف سے مجھ کو انگور کے دوتازہ خوشے ملے اور عجیب تربات یہ ہے کہ وہ ایام سرما تھے ان دونوں وہاں انگور کا ایک دانہ بھی نہیں ملتا تھا ان خوشوں میں سے کچھ میں نے وہیں کھائے اور باقی جگہ سے باہر آ کر ایک ایک دانہ ہر ایک کو قسم کرو دیا۔

غور کریں ناچک جی! ان کا کہنا ہے کہ مزار پر جانا حرام اور ہم ان سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے، جب کہ ان کے گروہ کے پیغمبر ہر طرف سے مالیوں ہو گئے اور پیغمبر نے کوروٹی نہیں سے نہ ملی تو حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے کھانا مانگ رہے ہیں اور بے موسم انگور پا کر پیغمبر ہے ہیں۔

(۲) حدیث میں ہے ”قال رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول من یبدل ستی رجل من بنی امية یقال له یزید“ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری ست کو سب سے پہلے بد لئے ”والابنی امیہ کا ایک شخص یزید ہوگا (تاریخ اخلاقاء)“ قال نوبل بن ابی الفرات کنت عند عمر بن عبد العزیز فذ کر رجل یزید فقال قال امیر المؤمنین یزید بن معاویہ فقال تقول امیر المؤمنین؟ او امر به فضرب عشرين سوطاً . نوبل بن ابی فرات کہتے ہیں کہ میں ایک روز اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ یزید کا ذکر آگیا ایک شخص نے یزید کو امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کہا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے جلال میں کہا تو اسے امیر المؤمنین کہتا ہے پھر آپ نے حکم دیا کہ یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے اس شخص کو ۲۰ رکوڑے لگائے جائیں تو اس کو ۲۰ رکوڑے لگائے گئے۔ شرح عقائد کی

شرح نبراس میں ہے: ”و سبہ (معاویۃ) رجل عند خلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز فحلده و قال آخر امیر المؤمنین یزید فحلده“ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے سامنے برا بھلا کہا تو آپ نے اس کو کوڑے لگوائے اور دوسرے شخص نے یزید کو امیر المؤمنین کہا تو اس کے بھی کوڑے لگوائے۔

دھیان رہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ خاندان امیہ کے ایک فرد تھے ان کے فضل و کمال، تقویٰ و طہارت کے بارے میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو خلفاء راشدین میں شامل کیا جاتا ہے اور وہ پہلے مجدد تھے انہوں نے یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے کو کوڑے لگوائے اس واقعہ سے ناٹک جی سبق حاصل کریں اگر ان کے زمانے میں ناٹک جی ہوتے تو ان کو بھی کوڑے کھانے پڑتے۔ یزید پلید اگر حق پر ہوتا تو حضرت عمر بن عبد العزیز اس کو امیر المؤمنین کہنے والے کو کوڑے نہ لگوائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یزید پلید یقیناً فاسق و فاجر نہالم اور جری علی الکبائر تھا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اس کو فریکہا اور ہمارے امام عظیم رضی اللہ عنہ نے یزید پلید کے لئے سکوت اختیار کیا تھا کا فریکہا نہ مسلمان۔ لیکن اس کے فرق و فجور، ظلم و زیادتی پر سب کا اتفاق ہے اور اس کے فرق و فجور سے انکار اور اس کی حقانیت کا اقرار اور امام مظلوم پر ازالہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ یزید پلید کو برحق اور اس کے پلید نام کے ساتھ ”رضی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ“ نہیں لگائے گا مگر ناصبی اہل بیت رسالت کا دشمن۔

”رضی اللہ عنہ“ کا استعمال ان کے لئے ہے جن کے دلوں میں خیثت الہی ہو کما قال تعالیٰ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ذلك

لمن خشی رہے ”اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ اس کے لئے ہے جو اس سے ڈرے۔ لہذا یہ مبارک جملہ مقین کے لئے ہے نہ کہ یزید پلید چیسے فاسق و فاجر اور خبیث و مردود کے لئے۔ جس نے ظلم کی حد کر دی۔ حر میں طیبین و خودخانہ کعبہ و روضہ مبارکہ کی سخت بے حرمتیاں کیں، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، ان کی لید و پیشاپ منبر اطہر پر پڑے، تین دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان و نماز نہ ہوتی۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ و حجاز مقدس میں ہزاروں صحابہ کرام و تابعین عظام بے گناہ شہید کئے۔ خانہ کعبہ پر پتھر پھیکے۔ غلاف شریف چھڑا، جلایا۔ مدینہ منورہ کی پاک دامن پارسا میں تین شبانہ روز اپنے خبیث لشکر کے لئے حلال کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگہ پارے کو تین دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے قبضے ظلم سے پیاسا ہی ذبح کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود کے پالے ہوئے تن ناز میں پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے۔ سر انور بوسہ گاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ثکر کر نیزے پر چڑھایا۔ حرم محترم قید کی گئیں اور ان کو بے حرمتی کیا تھا اس خبیث کے دربار میں لایا گیا اس سے بڑھ کر ظلم و زیادتی اور کیا ہوگی۔

یہ پاتیں جو اوپر مذکور ہیں ان میں اکثر کارتاکاب ضرور کفر ہے اور امام احمد ابن حنبل کا اسے کافر کہنا اس پر محوں ہے کہ ان کے نزدیک اس کا کفر پاپیہ ثبوت کو پہنچا۔ ناٹک جو طائفہ وہابیہ کا ایک فرد ہے اور وہابی اپنے آپ کو حنبلي کہتے اور امام احمد کے معتقد ہتے ہیں اس کو اپنے طائفہ کے حنبلي ہونے کے اس دعوے کی لاج تو رکھنا چاہئے گی اور اگر دیوبندی ہے تو دیوبندی اپنے آپ کو حنبلي کہتے ہیں افسوس کہ ناٹک نے کسی کا بھرم نہ رکھانہ نام کا حنبلي

ہوانہ دیوبند کی طرح نام کا حلقی۔

لہذا ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو ملعون اور فتن و فجور نہ  
جانے اور اس کو حق پر مانے اور اس کے پلید نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا رحمۃ  
اللہ علیہ لکھے اور کہے۔ معزکہ کربلا سیاست و اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ حق و  
باطل کا ہی معزک تھا۔

(۵) دیوبند کے علمائے اربعہ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل  
احمد غیثھوی، اشرف علی تھانوی بلا شک و شیرہ اپنے اقوال کفریہ، ضالہ کے  
سبب یقیناً کافرو مرتد ہیں۔ جو شخص ان کے اقوال کفریہ پر مطلع ہونے کے  
بعد انہیں مسلمان جانے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے اور ان کا نام  
تعظیم و توقیر سے لے تو وہ انہیں کی طرح کافرو مرتد ہے علمائے حرمین شریفین  
نے ایسوں کے لئے متفقہ طور پر فرمایا ”من شک فی کفرہ و عذابہ فقد  
کفر“ هذا من عندي والعلم بالحق عند الله تعالى والله تعالى  
اعلم۔ الاجوبة کلها صحسحة والله تعالى اعلم۔

كتبه

محمد افضل رضوی

مرکزی دارالافتاء، ۸۲، سودا گران بریلی شریف

۱۹ نومبر ۱۴۰۸ھ / ۱۹ نومبر ۲۰۰۷ء

صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم  
فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ

### (۳) وہابی کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کا کہنا ہے اگر کسی شخص نے وہابی کی نماز جنازہ پڑھی تو اس نے کفر کیا اس کے اوپر توبہ اور استغفار اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح فرض ہے اور بکر کا کہنا ہے کہ وہابی کی نماز جنازہ بغرض دنیوی فائدہ پڑھی تو کفر نہیں حرام ہے اور خالی توبہ فرض ہے تجدید ایمان تجدید نکاح فرض نہیں جب کہ نماز پڑھنے والا اس کی دبایت سے واقف ہے زید اور بکر میں سے کون حق پر ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں مہربانی ہوگی۔

فقط

معظم بیگ رضوی  
ملہ بخار پورا پرانا شہر بریلی شریف

الجواب: اللهم هداية الحق والصواب:

کفر کا قصد کرنا بھی کفر ہے جب اس نے جان بوجھ کروہابی مرد کی نماز جنازہ پڑھی خواہ دنیاوی فائدہ کے لئے ہو اس پر بعد توبہ و استغفار تجدید ایمان و اسلام اور یہوی والا ہو تو تجدید نکاح بھی لازم ہے کہ اس نے دانتہ کفر کا ارتکاب کیا زید کا کہنا صحیح و درست ہے اور بکر کا کہنا غلط و باطل ہے وہ اپنے قول سے رجوع کرے اور توبہ و استغفار کرے واللہ تعالیٰ اعلم۔

دنیوی طبع کی صورت میں بھی کفر صوری سے مفر نہیں لہذا توبہ و تجدید ایمان فرض ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں درختار وغیرہ کے حوالے سے ہے:

ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح وأولاده اولاد زنا و ما فيه  
خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة و تجديد النكاح (ج ۹۹ ص ۱۹۲)

والله تعالى اعلم

صح الجواب: والله تعالى اعلم  
فقير محمد اختر رضا قادری از هری غفرل

كتبه

محمد کوثر علی رضوی

مرکزی دارالاقاتاء ۸۲، رسودا گران بریلی شریف

۲۶، شوال المکرم ۱۳۳۵ هـ

## (۲) وہابی کو وہابی جانتے ہوئے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ (۱) مرد مثلاً وہابی وغیرہ کی نماز جنازہ پڑھنا یادعاۓ مغفرت کرنا کیسا ہے (۲) جو پڑھے یادعاۓ مغفرت کرے اسکے واسطے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے

المسقی

محمد ناظم الدین

چک محمود پرانا شہر بریلی شریف یونی

۲۲ رسواں المکرم ۱۳۳۵ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الجواب:

(۱) جان بوجھ کر مرد کی نماز جنازہ پڑھنا یادعاۓ مغفرت کرنا کفر ہے مرد کے نماز جنازہ کی حرمت پر نص قطعی ہے قال اللہ تبارک و تعالیٰ و لا تصل علی احد منهم مات ابداً و لا تقم علی قبرہ انہم کفروا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَا توھم فاسقون۔ ترجمہ: اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا پیشک اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے اور فتنہ ہی میں مر گئے (کنز الایمان)

رواحکار میں ہے فال الدعاء به کفر نعدم جوازه عقلاء لا و شرعاً ولتكذيبه النصوص القطعية (ج اوں ص ۵۳۳)

و فى الفتاوی الرضویہ عن الحلیہ نقلًا عن القرافی و اقر الدعاء بالمعفورة للکافر کفر لطلبه تکذیب اللہ تعالیٰ فيما اخبر به (ج ۳۲ ص ۵۳)

بہار شریعت میں ہے جو کسی کافر کے لئے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے وہ خود کافر ہے، مرتد کافر اصلی نصرانی مجوسی وغیرہ سے بڑھ کر کافر ہے تو اس کے لئے دعا مغفرت بدرجہ اولیٰ کافر ہے۔

(۲) لہذا جو اس کے حق میں دعا مغفرت کرے یا اس کی نماز جائز ہے تھے تجدید ایمان و تجدید نکاح کرے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ

محمد مناف رضوی

صحیح الجواب: فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری

مرکزی دارالاکفاء ۸۲ سوڈاگران بریلی شریف ۲۲ شوال ۱۴۴۷ھ

## (۵) دعوت اسلامی اور سی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ دعوت اسلامی و سی دعوت اسلامی کیسی تحریکیں ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ان سے جڑنا درست ہے۔ مفصل جواب عنایت فرمائیں۔

امسقحتی: محمد عرفان رضا  
جامعگر، گجرات

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب: اللهم هداية الحق والصواب

دعوت اسلامی والے مبلغ دین بن کر بہت سے کام خلاف دین کر رہے ہیں مثلاً تصویر کشی، ٹی۔ وی۔ کو جائز کرنا اور اس کا علائیہ ارتکاب کرنا اور کرنا جب کہ تصویر کی حرمت پر احادیث مبارکہ حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں، فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”احادیث اس بارے میں حد تو اتر پر ہیں“ اور آج تک ہر خاص تصویر کو حرام ہی جانتا ہے۔

ہاں جب حکومت ہند نے ہر ہندی پر مع تصویر اپنا شاختی کارڈ بنوانا لازمی قرار دیا تب جامعہ اشرفیہ مبارکپور کے سیمنار میں ضرورت شدیدہ شرعیہ کے پیش نظر مفتیان عظام نے اس کے جواز کا حکم دیا تھا، اس سیمنار میں ملک کے مقتدر مفتیان کرام جلوہ افروز تھے اور بحیثیت فصل وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ دام ظله بنفس نفس جلوہ فرماتھے، اور جب آپ نے اس حکم پر دخنط شہت فرمادیئے تب اس کو عام کیا گیا، مگر اب ان تحریکوں نے تصویر کشی کو عام کر دیا ہے۔

اسی طرح ”ٹی۔ وی“ دیکھنا ماضی قریب میں ہر خاص و عام کے

نزویک نہ موم و منوع تھا اور آج بھی ہر فکر سلیم رکھنے والا اس کو معیوب و گناہ ہی سمجھتا ہے، اور کچھ عرصہ قبل امیر دعوت اسلامی ”ٹی۔ وی، وی۔ سی آر“ کو دیکھنا حرام جانتے اور اس عمل بد کو اعمال خیر بر باد ہونے کا سبب مانتے تھے، جیسا کہ ایک اپیل میں خود کہتے ہیں:

”ٹی۔ وی، وی۔ سی آر“ کو اپنے گھر سے نکال دو، یاد رکھو! مرنے کے بعد یہ نہ کہنا کہ کوئی ہمیں بتانے، سمجھانے والا نہیں ملا تھا، اے طرح طرح کے گناہوں میں رچے، بے، رہنے والو! اگر گناہوں کے سبب ایمان بر باد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ عز وجل سورہ الرمز، آیت نمبر ۵۲ میں ارشاد فرماتا ہے (وانیسوالی ربکم و اسلمواله من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصریون (ترجمہ) اور اپنے رب کی طرف رجوع لا اور اس کے حضور گرون رکھو قبیل اس کے کتم پر عذاب آئے، پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ حیلے بھانے مت سمجھے، میٹھے میٹھے بھائیو! اب دیکھنا ہے کہ کون خوش نصیب ایسا ہے جو اس مصیبت کو گھر سے نکالتا ہے اور معاذ اللہ عز وجل کون بد نصیب ایسا ہے کہ ٹی۔ وی۔ چھوڑ کر مرتا ہے اور اللہ عز وجل نہ کرے، اللہ عز وجل نہ کرے، اللہ عز وجل نہ کرے قبر میں پھنتا ہے، شاید آپ کو شیطان و سو سے ڈالے کہ معلوم نہیں دعوت اسلامی والے کہاں کہاں سے یہ واقعات انھا کر لاتے ہیں۔“

اور بھی امیر صاحب نے ”مارو شیطان کو، مارو شیطان کو“ کہہ کرٹی۔ وی توڑے اور تڑوائے، پھر کچھ ہی دنوں میں اسی شیطان نے امیر دعوت اسلامی کو تبلیغ دین کا جھاسادے کر اپنے چگل میں ایسا پھنسایا کہ زندگی کا ہر لمحہ ٹی۔ وی میں محو کر دیا، شہد و کھا کر زہر قاتل نس نس میں بھرو دیا، شیطان کا بھی کمال ہے کہ مسلمان کو دین کے نام پر ہلاک کر دیتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت

علیہ الرحمہ فتاویٰ رضویہ میں رقمطراز ہیں کہ ”شیطان کا پرداز و حکم ہے کہ آدمی کو سیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے، نادان سمجھتا ہی نہیں، تیک کام کر رہا ہے“ حالانکہ وہ کام سیکل نہیں، گناہ ہوتا ہے، رضاۓ الہی کا سبب نہیں، غصب الہی کا باعث ہوتا ہے۔ اور نعمود باللہ امیر دعوت اسلامی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ”عدم جواز کا حکم ایک وقت تک تھا اور اب وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اور حکم جواز ناسخ ہے۔“ جب کہ یہ کھلی گمراہی و گمراہ گری ہے، جناب کو معلوم ہی نہیں کہ حکم نسخ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک ہی مخصوص تھا، حکم سابق کو منسوخ کرنے کے لئے وحی یا حدیث متواتر لازم ہے، الناصح و المنسوخ میں ہے: لانسخ بعد وفات الرسول لان النسخ لا یکون الا بالوحی کتاب او سنۃ علی التحقیق“۔ مگر امیر صاحب اس سے ناولد ہیں، اور کیوں نہ ہوں، یہ کام تو علماء کا ہے اور ان کا مبلغ و معیار علم خود انہی کی زبان سے سنئے! مبلغ نے معلوم کیا، کیا آپ نے بھی کسی مدرسہ سے فراغت حاصل فرمائی ہے، جواب: ”میں عالم تو خیر نہیں ہوں، لیکن میں خود تو مدرسہ میں نہیں پڑھا ہوں، ایک دن بھی کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی،“ تبھی تو شیطان کا مکمل شکار ہو گئے، اور ٹی۔ وی۔ کو اپنا اوڑھنا، پچھونا بنا لیا، اور اب نوبت بایس جارسید کہ مساجد جو صرف عبادات کے لئے مخصوص ہیں، ان میں بھی ٹی۔ وی چلا کر ان کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، الامان والحقيقة، اور ابھی حال ہی میں بھے پور، راجستھان میں ایک مبلغ نے تو حد ہی کر دی، بولا کہ: ”مدنی چینیں دیکھنا باعث ثواب ہی نہیں بلکہ فرض عین ہے“۔ نعمود باللہ اجتب کہ دنیا جانتی ہے کہ ٹی۔ وی۔ وی۔ سی۔ آر۔ سینما ہی کی ٹکل جدید ہے اور اس کی حرمت ایک اجتماعی مسئلہ ہے جس کو مدد و دی کے علاوہ کسی نے بھی جائز نہیں کہا، فلم ”خاتمة خدا“ کے خلاف سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا

فتاویٰ اس پر بطور سند کافی ہے اور اس وقت اس کا خلاف کسی نہ تھیں کیا۔  
 اور اب حال یہ ہو گیا ہے اگر کوئی عالم دین، حکم شرع بیان کر دے، جو  
 حکم ان کے خلاف ہو، تو یہ اس عالم دین کو مارنے، پیشے سے گریز نہیں کرتے،  
 اور متعدد مقامات پر علمائے کرام کو حق بیانی کی بنابر اپر ما را بھی ہے، فتاویٰ رضویہ  
 میں سرکار اعلیٰ حضرت رقم فرماتے ہیں: عالم دین سے بلا وجہ بعض رکھنے میں  
 خوف کفر ہے، اگرچہ اہانت نہ کرے، فتاویٰ خلاصہ وغیرہ اہل ہے: من  
 ابغض عالما بغیر وجہ ظاهر خیف عليه الکفر، ”جب عالم دین سے  
 بلا وجہ صرف بعض رکھنے میں خوف کفر ہے، تو علمائے کرام کی توبہ  
 کرنے، مارنے، پیشے کا جو حکم ہے سب پر عیاں ہے۔

یہی حال سنی دعوت اسلامی کا بھی ہے، کروہ بھی ٹھی۔ وہی اور تصویر کشی  
 کی بلا میں گرفتار ہے، اس کے پروگراموں میں بھی ٹھی۔ وہی اور تصویر کشی عام  
 ہے، دونوں تحریکیں مبلغ دین کے نام پر ٹھی۔ وہی کی بلا میں گرفتار ہیں۔ جب  
 کہ ٹھی۔ وہی پر نشر دین، دین کو تماشا بناانا ہے، اور جو شخص دین کو تماشا و کھلوڑ  
 بنائے اس سے دور رہنے کا حکم قرآن مجید میں ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا  
 ہے: (وَذِرَ الظَّيْنَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعْبًا وَلَهُوا وَغَرْتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ  
 ذَكَرِيهِ انْتَبَسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسِبَتْ) سورہ انعام۔ ۷۰ (ترجمہ) اور  
 چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنادین ٹھی کھیل بنا لیا۔ اور انہیں دنیا کی زندگی  
 نے فریب دیا، اور قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے  
 کئے پر کپڑی نہ جائے۔

سنی دعوت اسلامی، دعوت اسلامی سے صرف اس بنابر الگ ہوئی تھی  
 کہ دعوت اسلامی کے دستور میں ہے کہ اس کے زیر اہتمام اہل سنت کے  
 مخصوص اجلاس، عید میلاد النبی، جشن شب برأت وغیرہ نہیں ہوں گے۔ اور روز

وہ بیت نہیں ہو گا اور یہ لوگ دیوبندیوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ مشہور و معروف ہے، اور اب انہیں کی طرز پر چلتے ہوئے امیر سنی دعوت اسلامی خود ایک ایسے شخص سے جڑے ہوئے ہیں جو علماء کو نسل کا بانی ہے جس میں وہ بانی، دیوبندی سب شامل ہیں، اور اسی شخص نے سنی دعوت اسلامی کے پروگرام میں یہ تک کہہ دیا کہ ”قبر میں مسلک نہ پوچھا جائیگا“ پھر بھی سیدت کا دم بھرنے والے امیر سنی دعوت اسلامی اس سے جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ حضور تاج الشریعہ دام ظلمہ سے ناگپور میں بانی علماء کو نسل چھوڑنے اور اس سے علیحدہ ہونے کا وعدہ کر چکے ہیں، اور ناگپور کے اجلاس میں اس کا اعلان بھی کر چکے ہیں، مگر امیر سنی دعوت اسلامی اب تک وعدہ وفاتہ کر پائے، اور شیطان نے وعدہ پورا نہ کرنے پر انہیں مصر کر دیا ہے، انہیں وجوہات کی بنابر محتاط علماء ان سے الگ و نفور ہیں، اور فقیر ابن فقیر، استاذی و متحنی، قاضی القضاۃ فی الہند حضور تاج الشریعہ حضرت مفتی محمد اختر رضا خاں صاحب قبلہ دام ظلمہ و متعمنا اللہ بطول حیاته نے انہیں کیوں کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ ”دعوت اسلامی و سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں، بلہذ اقصیل بالا سے ان کی حقیقت ظاہر اور ان سے جڑنا کیا؟ ہر عاقل بلکہ ہر خاص و عام پر عیاں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم“

صحیح الجواب: واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ

لکھتا

محمد افضل رضوی

مرکزی دارالاوقاف، ۸۲، رسواد آگران، بریلی شریف

۱۳۳۵ھ

## (۲) دعوت اسلامی کے مبلغ کی امامت

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مندرجہ ذیل مسئلہ میں  
کہ دعوت اسلامی کے مبلغ کو امام بنا کیا ہے جب کروہٹی۔ وی۔ ویڈیو کو  
جاہز کہتے ہیں جب کتابخانہ شریعہ نے تھی۔ وی۔ ویڈیو کو حرام فرمایا ہے اور ویگرد مدد و دار  
الل سنت والجماعت کے علمائے کرام نے تابع الشریعہ کے فتویٰ پر اتفاق فرمایا تو دعوت  
اسلامی کے مبلغ جوٹی۔ وی۔ ویڈیو کو جاہز کہتے ہیں ان کے یہچہ نماز پڑھنا کیا ہے قرآن  
و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں کرم ہوگا؟

سائل: محمد معظم بیک

بخار پورہ، پرانہ شہر بریلی

بسم الله الرحمن الرحيم

**الجواب: اللهم هداية الحق والصواب:**

ٹی وی۔ ویڈیو کو جاہز سمجھنا کھلی گراہی شیطان کی ہمراہی ہے اس کا دیکھنا دکھانا  
ویڈیو بناتا ہوا نہ صریح مطلقاً حرام بدکام بدنجام ہے خواہ اس میں مذہبی پروگرام ہو یا  
غیر مذہبی اس کی حرمت پر احادیث کثیرہ شاہد ہیں جس کی تفصیل سیدنا اعلیٰ حضرت امام  
الل سنت قدس سرہ کے رسالہ مبارکہ عطا یا القدیر فی حکم التصویر میں ہے ان  
شیئت فطا لعنه۔ فتاویٰ شایی میں ہے ”اما فعل التصویر فهو غير جائز مطلقاً لانه  
مضاهلة الخلق لله تعالى كما مر“۔ اسی میں ہے ”ظاهر کلام النبوی فی  
شرح مسلم الاجماع علی تحریم تصویر الحیوان و قال و سواء صنعته لاما  
یمعتهن او لغيره فصنعته حرام بكل حال لان فيه مضاهة لخلق الله تعالى“

(ج امر ۲۷۹) یعنی جاندار کی تصور یہ بنا مطلقاً حرام ہے اس لئے کہ وہ خلق الہی کی مشاہدہ ہے جیسا کہ گزر۔ اور امام نووی کے کلام کا ظاہر مفاد یہ ہے کہ ہر جاندار کی تصور سازی کی حرمت پر اجماع ہے انہوں نے فرمایا کہ ذی روح کی تصور مطلقاً حرام ہے خواہ اسے اہانت کے لئے بناۓ یا کسی اور مقدمہ کے لئے بناۓ لہذا جاندار کی تصور یہ بنا بہر حال حرام ہے اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فعل عقل کی مشاہدہ ہے۔ اس کو جائز سمجھ کر دیکھنا ویڈیو گرفتار کرنا کروانا وہ را گناہ ہے ایک ناجائز کو جائز سمجھنے درستے اس فعل بد کو انجام دینے کا، شیطان کا سب سے بڑا حوكماً یہ ہے کہ کسی ناجائز کام کو نیک کے پردہ میں کروائے ویڈیو کے ساتھی۔ وی سے تبلیغ دین دین کرنا حقیقت میں تبلیغ دین نہیں کرنا ہے بلکہ دین کو قماش بناتا ہے کیونکہ تبلیغ دین نام ہے احکام شرع کے نشر و اشاعت کا صورت مذکورہ میں تو حکم شرع کی پامالی کرنا اور کروانا ہے نعمود بالله من اهل الطفوی نیز اس تحریک سے جوئے بہت سے افراد دیدہ و دوائستہ ہائیوں کے پیچھے نماز پڑھتے اور ٹی۔ وی ویڈیو کو جائز بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مجدد دین ولیت امام احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں ”دیوبندی عقیدے والوں کے پیچھے نماز باطل حسن ہے۔ ہوگی ہی نہیں، فرض سر پر ہے گا، اور ان کے پیچھے پڑھنے کا شدید عظیم گناہ“ (فتاویٰ رضویہ ج ۳، ص ۲۳۵) دوسری جگہ فرماتے ”ہیں جسے یہ معلوم ہو کہ دیوبندیوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کی ہے پھر بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اسے مسلمان نہ کہا جائے گا کہ پیچھے نماز پڑھنا اس کی ظاہر دلیل کہ ان کو مسلمان سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو مسلمان سمجھنا کفر ہے۔ (لدنی مرید، ج ۱، ص ۲۶۷)

لہذا صورت مسؤولہ میں اگر مذکور مبلغ۔ ٹی۔ وی ویڈیو کو جائز کہتا ہے یا دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کو امام یہ بنا ناجائز اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا

منوع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم و عالمہ اتم و حکم۔

کتبہ

محمد مناف رضوی مرکزی

مرکزی دارالاوقاء ۸۲ سوداگران رضا گر بریلی شریف

ارجمندی الاولی ۱۳۵۴ھ

صحیح الجواب: واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ

الجواب صحیح: واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد عسجد رضا قادری غفرلہ القوی

صحیح الجواب: واللہ تعالیٰ اعلم

حکیم عہد مظفر حسین قادری

الجواب صحیح: واللہ تعالیٰ اعلم

محمد انفال رضوی

محمد کوش علی رضوی

مرکزی دارالاوقاء بریلی شریف

## (۷) ”بٹ“ کھانا کیسے؟

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ حلال جانور کی بٹ کھانا کیسے اور حضور تاج الشریعہ کیا فیصلہ ہے جلد سے جلد جواب عطا فرمائیں مہربانی ہوگی۔

سائل محمد معظم بیک

بخار پورا پرانا شہر بریلی

الجواب: بٹ او جھ کے اوپر کا گوشت ہے، بٹ اور نجاست کے درمیان ایک جھلی ہوتی جو اثر نجاست کو بٹ تک نہیں پہنچنے دیتی، لہذا بٹ کا کھانا جائز ہے، نوری کرنے کے ۱۹۱۴ء میں حضور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ کی تصدیق کے ساتھ کھانے کے جواز کا فتویٰ موجود ہے، اور حضور تاج الشریعہ دام ظله کا بھی فتویٰ بٹ کھانے کے جواز پر ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ

محمد افضل رضوی

مرکزی دارالاوقاف، ۸۲ء، سوداگران بریلی شریف

۱۳۳۶ھ

صحیح الجواب: واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ

واللہ تعالیٰ اعلم

صحیح الجواب: فقیر محمد عسجد رضا قادری غفرلہ

صحیح الجواب: محمد مظفر حسین قادری

واللہ تعالیٰ اعلم  
السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ:

کیا فرماتے ہیں حضرات مفتیان کرام اہل سنت و جماعت  
۔۔۔۔۔ حلال جانور کی بٹ کھانے کا کیا حکم شرعی ہے۔ بینوا تو جروا  
فقیر شمسی غفرل محلہ نو شہرہ (ضلع گونڈہ) پن:- ۲۷۱۲۰۱

الجواب: بٹ کھانا بلا کسی ادنیٰ کراہت کے جائز ہے بٹ اگرچہ معدے کے  
اوپر کا گوشت ہے مگر اس میں اور نجاست میں ایک موٹی جھلکی جسکو ہمارے  
یہاں کی زبان میں جھروتا کہتے ہیں حائل ہوتی ہے یہ جھلکی اتنی موٹی ہوتی  
ہے کہ اس کی چھنپی بنتی ہے اس لئے بٹ معدے کے حکم میں نہیں ہس لئے  
کہ کراہت کی علمت نجاست کے ساتھ اتصال ہے اور وہ بٹ میں مرتفع ہے

واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ

محمد شریف الحق امجدی دارالافتاء اشرفیہ مبارکپور ۲/رجب ۱۳۹۹ھ

مہر

دارالافتاء اشرفیہ مبارکپور

الجواب صحیح واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلہ

۳ محرم الحرام ۱۴۱۹ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ماکول المحم  
جانور کی اوجھڑی کھانے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ یہاں شہر بناں میں کچھ  
لوگ بٹ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ اسے مثل اوجھڑی مکروہ قرار دیتے ہیں۔

دریافت طلب امریہ کہ بٹ کیا ہے؟ کیا یہ اوجھڑی کا حصہ ہے یا  
اس سے عیحدہ اور کوئی چیز اور ہر صورت اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز و مکروہ  
تحمیی اور جو اس کے کھانے کو مکروہ و ناجائز قرار دیتے ہیں وہ حق پر ہیں یا  
نہیں۔

كتب فقه سے اس کا حکم شرعی واضح فرمائیں۔ اور حضور تاج  
الشريعة کی تائید و توثیق بھی ہو تو بہتر ہو۔ فقط

امستقی:

وسیم احمد

محلہ جلالی پوری۔ بناں

الجواب ۸۲: بعون الملك العزيز الوهاب: صورت مستقرہ میں بٹ کا  
کھانا بلا کراہت جائز ہے حضور تاج الشريعة قضی القضاۃ فی الهند مفتی محمد اختر  
رضاعاں قادری از ہری دام خلہ العالی کا موقف بھی یہی ہے کہ بٹ کا کھانا  
جاز ہے مزید تفصیل کے لئے مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب قبلہ کا فتویٰ  
بٹ کے بابت جس پر حضور تاج الشريعة کی تصدیق ہے ملاحظہ کریں واللہ  
تعالیٰ اعلم۔

کتبہ  
محمد کوثر علی رضوی

فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ  
صحیح الجواب:۔ واللہ تعالیٰ اعلم  
فقیر محمد عسجد رضا قادری غفرلہ  
صحیح الجواب:۔ واللہ تعالیٰ اعلم  
حکیم مظفر حسین قادری

مرکزی دارالافتاء ۸۲ رسوداگران  
بریلی شریف ۱۳ صفر المظفر ۱۴۲۵ھ

## (۸) ”وَفَ“ پر نعت شریف پڑھنا کیسا ہے؟

الاستفتاء

جواب مشقی صاحب  
السلام علیکم ورحمة وبرکاتہ  
کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے  
میں کہ:

آج کل مختلف نعمت خواں اپنی نعمتوں کے ساتھ خصوصاً عربی کلام  
کے ساتھ ذکر اللہ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سننے والے کو یہ  
محسوس ہو کہ ڈھول بخار ہے ہیں یعنی گمان ایسا کیا جاتا ہے کہ نعمت کے  
ساتھ (معاذ اللہ عز و جل) میوزک نجح رہا ہے تو کیا یہ پڑھنا اور اس کو مندا شرعاً  
جاز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو برائے مہربانی اس کی دلیل کے ساتھ وضاحت  
فرمادیجئے اور اگر ناجائز ہے تو بھی اس کی دلیل کے ساتھ وضاحت فرمادیجئے۔

سائل:

محمد انیس

پستہ: معلم مدرسہ رضویہ کراچی پاکستان

باسمہ تعالیٰ

الجواب بعون الملك الوہاب: قرآن شریف میں ہے واسفز من  
استطاعت منہم بصوتک الی آخرہ (پ ۱۵۶) یعنی  
اور ڈگا (ہٹا) دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے (کنز

الایمان) یعنی وسوسے ڈال کر اور معصیت کی طرف بلا کر۔ بعض علماء نے فرمایا کہ مراد اس سے گانے باجے لہو و لعب کی آوازیں ہیں ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مقول ہے کہ جو آواز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے (خزانۃ العرفان) اور حدیث شریف میں ہے عن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقُول عن الغناء ينْبَتِ النَّفَاقُ فِي الْقَلْبِ یعنی مویقی سلم میں نفاق پیدا کرنے ہے۔

امام الحسد اعلیٰ حضرت مولا نا شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی اپنی تصنیف "الکھف الشافی" میں تحریر فرماتے ہیں کہ وکل عاقل یعرف ان لاتخلع عنی هذا الخصوص صورة الدبر من ای الدنسات صبغت بصبغها لعنه الحرجة حاصده قضاها۔ یعنی ہر عقل مند جانتا ہے کہ اس میں کسی خاص قسم کے آلہ سے آواز پیدا ہوگی وہ اس کے رنگ میں رنگ جائے گی (مشابہ ہو جائے گی) معلوم ہونا چاہیے کہ مویقی شریعت میں ناجائز ہے یوں ہی ہروہ طریقہ جس سے مویقی پیدا ہوتی وہ بھی شرعاً ناجائز ہے صورت مسئولہ میں نعمت شریف کے Back Ground (یک گراڈنڈ) اس طریقے پر ذکر اللہ کی تکرار کرنا جس سے سننے والے کو مویقی معلوم ہو یا مویقی کے ساتھ مشابہت ہو جائز نہیں نعمت خواں حضرات اور سامعین کو اس سے گریز کرنا چاہیے تاکہ نعمت شریف اور ذکر اللہ کا تقدس برقرار رہے۔

مفتی عبد العزیز حنفی غفرلہ

دارالافتاء دارالعلوم امجدیہ عالمگیری روڈ گراجی

۱۰ ارجمندی الآخر ۱۴۲۳ھ ۲۰ اگست ۲۰۰۲ء

بسم الله الرحمن الرحيم

میرے پاس ایک فتویٰ کراچی سے عزیزم محترم مولانا عبدالعزیز  
حنفی کا لکھا ہوا تصدیق کے لئے بھیجا گیا مصروفیات اور مسلسل سفر کی وجہ سے  
میں بروقت اس فتوے کی تصدیق کرنے سے قاصر رہا فتویٰ ایک کیسٹ سے  
متعلق ہے جس میں ذکر ہے کہ آواز اس طور پر سنائی دیتی ہے جیسے دف کے  
ساتھ ذکر ہو رہا ہو اور سوال میں بھی مرقوم ہے اور زبانی طور پر بھی معلوم ہوا  
کہ ذکر کرنے والوں نے دف کا استعمال نہ کیا بلکہ اپنے منہ سے وہ واپسی  
آواز لکاتے ہیں جو دف کے مشابہ معلوم ہوتی ہے یہ مسئلہ چونکہ قابل غور تھا  
اس لئے لوگوں سے کیسٹ منگوا کر سنا۔ واقعۃ وہ آواز مشابہ دف معلوم ہوتی ہے۔  
دف آلات لہو و لعب میں سے ہے جس کا استعمال اغلب احوال  
میں لہو و لعب کے لئے ہوتا ہے لہذا دف کے استعمال کی شرعاً اجازت  
نہیں۔ دف بغیر جل جل کی اباحت بعض احادیث سے مثلاً اعلنوواهذا  
النكاح و اضربوا عليه بالدفوف وغيره سے معلوم ہوتی ہے لیکن اصول  
فقہ کا قاعدہ ہے کہ اذا اجتمع الحلال و الحرام رجع الحرام بنابریں  
تریجح جانب حرمت کو ہے جس کی موید سرکار ابدر قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  
المدرار کی احادیث شریفہ مثلاً امرت بمحقق المعاذف بعنینی ربی عز و  
جل بمحقق المعاذف وغيرہما ہیں قطع نظر اس کے کہ حدیث مذکور اعلنووا  
هذا النکاح میں اجازت استعمال دف کی بغرض اعلان مفہوم ہوتی ہے یہی  
لیا جائے کہ بعض احوال میں ملاہی کی اجازت ہے مگر اس زمانے میں جب  
کہ لوگ صحیح نیت سے قاصر اور احکام شرع سے غافل لہو و لعب میں منہک

ہیں سبیل اطلاق منع ہیں کما افادہ الامام جدی الہمام اشیخ احمد رضا قدس سرہ فی رسالته المبارکۃ هادی الناس فی رسوم الاعراس "قال فی الدر المختار بعد حکمیۃ عن امامنا ابی حنفیۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلت المسئلة علی ان الملاہی کلھا حرام۔ یہ تو دف وغیرہ آلات ہو کے بارے میں تھا جو آواز ان آلات ہو کے مشابہ کسی طرح سے پیدا کی جائے اس کا بھی وہی حکم ہے جو ان کے آلات ہو سے نکلنے والی آوازوں کا ہے۔

اس کی نظیر گراموفون وغیرہ آلات سے نکلنے والی ان آوازوں کا حکم ہے جو قطعاً ان آلات ہو سے نکلنے والی آوازیں تو نہیں لیکن بلاشبہ یہ آوازیں ان آلات ہو کے آوازوں کی کاپیاں ہیں۔ لہذا اگر گراموفون وغیرہ میں ان ملاہی کی آوازیں بھرتا اور انہیں سننا اسی طرح حرام ہے جس طرح ان ملاہی کا استعمال سننے سنانے کے لئے حرام ہے۔ سینی ایک مخصوص آواز نکالنے کا آہنے اس جیسی آواز اگر منہ سے نکالی جائے تو یہ بالعموم طریقہ فساق ہے، اور ناجائز ہے لہذا ان مندرجہ بالا امور سے روشن ہے کہ دف جیسی آواز نکالنا اگر چہ بغیر استعمال دف ہو، ناجائز ہے اور اگر یہ قصد ہے تو یہ تسلی ہے جو مطلقاً حرام ہے۔ اور اگر ایسی آواز منہ سے بلا قصد نکلی ہے تو وہ صورۃ ہو کے مشابہ ہے لہذا اس سے بھی گریز چاہئے خصوصاً ذکر و نعت میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ قصد ہو اور صورت ہو دونوں سے پرہیز کیا جائے دف کے استعمال کی رخصت نظر پہ بعض احادیث سے اگر ثابت بھی ہے تو ان اشعار میں ہے جن کا تعلق ذکر و نعت سے نہیں اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے حضور کی خدمت میں جب ایک گانے  
والی نے دف بجا یا اور تمہارے اشعار کے یہ مصروف پڑھلے  
و فینا نبی یعلم ما فی غد

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دعیٰ ہے وہ قولی بالذی  
ما کہت تقولین یہ رہنے دو اور جو پڑھ رہی تھیں وہی پڑھتی رہو کہ صورت ابھو  
پر نعت شریف شایان شان نہ تھا اب حکم مسئلہ صاف ہو گیا اور وہ یہ کہ ایسی  
آواز جودف وغیرہ کے مشابہ ہونہ سے نکالنا جائز نہیں کہ طریقہ فساق ہے  
اور ذکر وغیرہ میں اشدننا جائز ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

قالہ فہر وامر بر قلم  
فقیر محمد اختر رضا از هری قادری غفرلہ  
النزیل میرہ من اعمال فیض آباد

ایسی آوازیں منہ سے نکالنا جن سے موسيقی کا دھوکہ ہو یا لوگ اسے  
موسيقی کیجھ کر موسيقی کا لطف اٹھائیں اہو لعب میں شامل ہے اور ہر لعب حرام ہے۔  
واللہ تعالیٰ اعلم علیم عسین رضا غفرلہ

شیخ الحدیث جامدنور یہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف  
نعت و منقبت اور قصیدہ خوانی میں دف بجانا سوء ادب اور مکروہ و  
ممنوع ہے اسی طرح ایسی آوازیں منہ سے بیانا اور نکالنا جس سے محسوس ہو کہ  
دف یا دیگر آلات موسيقی بجائے جا رہے ہیں ممنوع و ناروا اور بے ادبی ہے  
لهو لعب کی آوازیں منہ سے نکالنا عموماً فاسقوں کا طریقہ ہے جس سے  
اجتناب۔ و غنا و آواز مزامیر و بہانہ از مزامیر ناجائز ہے نعت شریف میں اور

خاص اسم جلالت کے ساتھ انداز صوت مزامیر اختیار کرنے میں نوع الہانت  
بھی ہے اس لئے اس کا عدم جواز شدید ہے اگرچہ نیت خیر ہو۔ فالجواب صحیح و  
ہو تعالیٰ اعلم۔

فَقِيرُ ضياءِ الْمُصْطَفَى قَادِرٌ غَفْرَانٌ

وف کی آواز منہ یا کسی اور طریقہ سے بالقصد بنانا بھی مردوں کے  
لئے مطلقاً مکروہ ہے، ذکر و نعت شریف میں اس کی کراہت اور اشد ہے واللہ  
تعالیٰ اعلم۔

قاضی شہید عالم رضوی

جامع نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف

احتراز لازمی ہے خصوصاً اسم جلالت، اسم رسالت یا کلمہ شریف کا  
ذکر اس طرح کرنا کہ آنکہ موسیقی بجائے جانے کا شبهہ ہو سخت ممنوع و ناجائز  
ہے وہ تعالیٰ اعلم۔

ازیں قبل میں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا اس وقت یہ مسئلہ مجھ  
پر واضح نہیں تھا اب میں اس جواب سے رجوع کرتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ  
اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے اور  
فتویٰ نویسی میں خطاء و لغوش سے محفوظ و مامون رکھے آمین!

محمد ایوب مظہر

دارالعلوم و ارشیہ، گومتی نگر، لاہور

الجواب صحیح واللہ تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبد الرحیم غفرلہ القوی

الجواب صحیح واللہ تعالیٰ اعلم خواجہ مظفر حسین

الجواب صحح والله تعالى اعلم محمد ناظم علي باره نيكو  
 الجواب صحح والله تعالى اعلم محمد مظفر حسين قادری رضوی  
 الجواب صحح والله تعالى اعلم محمد کمال، دارالعلوم نور الحق چہہ محمد پور، فیض آباد  
 الجواب صحح والله تعالى اعلم محمد یوس رضا الاوی الرضوی غفرلہ خادم التدریس  
 والاقفاء جامعہ الرضا مرکزی دارالاقفاء

هذا حکم العالم المطاع و ما علينا الا الاتباع

محمد عبدالرحیم نشرت فاروقی غفرلہ القوی  
 مرکزی دارالاقفاء بریلی شریف

## (۹) اعلیٰ حضرت کی نماز جنازہ حجۃ الاسلام نے پڑھائی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور پر نور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی صاحب علیہ الرحمہ (صاحب بہار شریعت) نے پڑھائی کیونکہ وہ ادعیہ جو وصیت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کی تھیں وہ دعا میں حضور حجۃ الاسلام مولانا مفتی محمد حامد رضا خاں قدس سرہ العزیز کو یاد نہیں تھیں کیا یہ صحیح ہے جو لوگ ایسا کہتے اور لکھتے ہیں کیا وہ حق پر ہیں اور ان کا کہنا کہاں تک درست ہے؟ تو اونچ کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں نوازش ہوگی۔

امستقی:

محمد کوثر علی رضوی

امام مسجد گھیر فتح محمد خاں شہامت نجف بریلوی شریف

۸۶ راجوab: سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی نماز جنازہ خلف اکبر قدوة الاتام حجۃ الاسلام مولانا الشاہ مفتی محمد حامد رضا خاں علیہ الرحمہ نے پڑھائی حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے حیات اعلیٰ حضرت میں اخبار دبدبہ سکندری، اخبار ذوق القرئین بدایوں کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے کہ حضور حجۃ الاسلام نے نماز جنازہ پڑھائی بعد نماز ظہر حضرت مولانا مولوی مفتی حاجی محمد حامد رضا خاں

صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے بعد تلقین ترکیب نماز جنازہ اور بکیر سوم کے بعد وہ ادعیہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتاویٰ مبارکہ میں تحریر فرمائیں اور معمولہ حضور اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں حسب وصیت پڑھیں۔ اُنچھے اور جب فدوی جامعہ فوریہ میں تدریسی خدمات پر مأمور تھا تو انہیں دونوں ایک پوسٹ کارڈ پر چند سوالات آئے، (۱) اعلیٰ حضرت کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی (۲) ان کی نماز جنازہ کس جگہ پر ہوئی؟ صدر العلماء استاذی مفتی شمسین رضا خاں محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے فدوی سے جواب املا کرایا کہ حضور جنتۃ الاسلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ عید گاہ باقر گنج میں ہوئی تھی۔

بقیۃ السلف صوفی ملت حضرت علامہ مولانا جبیب رضا خاں صاحب نے بارہا فرمایا کہ جنتۃ الاسلام علیہ الرحمہ نے پڑھائی خطبۃ جنتۃ الاسلام میں ڈاکٹر عبدالغیم عزیزی نے بھی تحریر کیا ہے کہ حضور جنتۃ الاسلام علیہ الرحمہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ قد وہ الانام جنتۃ الاسلام مفتی محمد حافظ خاں صاحب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہما الرحمہ کے علوم کے وارث و جانشین تھے، آپ کے تحریر علی، خداداد صلاحیت کے معترف علماء عرب بھی ہیں دوسرے حج و زیارت کے موقع پر حضرت شیخ سید حسن دباغ اور سید محمد مالکی ترکی نے اس طرح اعتراف کیا۔ ہم نے ہندوستان کے اکناف و اطراف میں جنتۃ الاسلام جیسا فرض و بیان دوسر انہیں دیکھا جسے عربی زبان میں اتنا عبور حاصل ہو، حضور اعلیٰ حضرت کی عربی زبان کی کتب ”الدولۃ المکتیۃ“ اور ”کفل الفقیہ الفاظم“ کی طباعت کے وقت

اعلیٰ حضرت کے حکم پر اسی وقت عربی زبان میں تمہیدات تحریر کر دیں جنہیں دیکھ کر اعلیٰ حضرت بہت خوش ہوئے، خوب سراہا اور دعا کیں دیں۔

لہذا جانشین اعلیٰ حضرت قدوة الانامم جعیۃ الاسلام مولانا الشاہ مفتی محمد حامد رضا خاں کے لئے یہ کہنا کہ ادعیہ یاد نہیں ہیں غلط ہے اور اس کے لکھنے اور کہنے والے غلط روشن پر ہیں وہ لوگ اس سے بازاً ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ

حکیم محمد مظفر حسین قادری رضوی

مرکزی دارالافتاء ۸۲۴ رسواد گران بریلی شریف

۱۳ مرجب المحرم ۱۴۲۹ء

جواب صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضور جعیۃ الاسلام ہی نے پڑھائی وصایا شریف جو پہلے چھپی تھی اس میں میرے خسر گرامی حضرت مولانا حسین رضا خاں صاحب علیہ الرحمہ کی جانب سے یہ نوٹ لگا ہوا تھا جس میں درج تھا کہ جعیۃ الاسلام نے وہ ادعیہ یاد کر لی تھیں اور نماز جنازہ انہوں نے ہی پڑھائی اب بعد کے ایڈیشنوں میں یہ نوٹ کیسے حذف ہو گیا اور خدا جانے کس نے حذف کیا۔ بہر حال اس کے برخلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے غلط ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ

سح الم جواب: واللہ تعالیٰ اعلم

قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرلہ القوی

الجواب صحیح: واللہ تعالیٰ اعلم

محمد ناظم علی قادری بارہ بنکوی

## (۱۰) اُنی، وی چینل پر اسلامی پروگرام دیکھنا کیسا؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مندرجہ ذیل مسائل میں کہ  
 (۱) اُنی وی چینل میں اسلامک پروگرام دیکھنا جائز ہے یا ناجائز کچھ حضرات  
 اسلامک پروگرام کو جائز کہتے ہیں اور دیکھنے دکھانے پر زور دیتے ہیں ان  
 کے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟

(۲) سی۔ ڈی۔ مودی جس میں پچھر آتا ہے اور نہ تو تقریر یا قوالی وغیرہ اس  
 سے نائل دیتا ہے اسے دیکھنا جائز ہے یا ناجائز؟

(۳) سی۔ ڈی۔ میں علماء مشائخ کی تصویر قید کر کے اسے دکھانا دیکھنا جائز ہے یا  
 ناجائز

(نوٹ) اس فتویٰ پر حضور تاج الشریعہ مدظلہ العالیٰ کی تقدیم ضروری ہے  
 امسکتني

محمد عمران رضا

وهدیا وجہار کھنڈ

الحواب بعون الملك عزیز الوهاب: اُنی وی چینل میں اسلامک پروگرام  
 ہو یا غیر اسلامک دیکھنا دکھانا ناجائز و گناہ ہیں کہ اس میں جاندار کی تصویر چھپتی  
 اور دکھانی ویتی ہے اور جاندار کی تصویر کی بابت حدیث شریف میں ہے کہ  
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذی روح کی تصویر بنانا بنوانا اور اپنے  
 پاس رکھنا سب حرام فرمایا اور اس پر سخت سخت وعید میں ارشاد کیس اور ان کے  
 دور کرنے اور مٹانے کا حکم دیا۔ احادیث اس بارے میں حدتو اتر پر ہیں۔

اور جس طرح تصویر بنانا ہونا ناجائز و گناہ ہے، اسی طرح تصویر دیکھنا، دکھانا ناجائز و گناہ ہے، بلکہ تصویر کے دوسرے وجہ استعمال بھی ناجائز ہیں۔ وی اور مسووی میں جو تصویر بنائی جاتی ہیں وہ ان میں ول جمی رکھنے والوں کے لئے ہی بنائی جاتی ہیں، اگر یہ نہ دیکھیں اور اُنی وی ویڈیو کا استعمال نہ کریں تو ان تصویروں کو کوئی دو کوڑی کوئی پوچھنے گا اور نہ کوئی ان کو بنانے کی جرأت کرے گا، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ دینی پروگرام اُنی وی اور ویڈیو پر جائز ہیں یہ محض شیطان کا ایک دھوکہ ہے اور شیطان کا ایک حیله ہے، کہ اس حیلے سے اس نے لوگوں کو ایک فعل حرام میں مبتلا کر دیا ہے، اس سے بڑھ کر ایک خرابی شیطان نے یہ ڈالی کہ حرام کو پہلے اوگ حرام سمجھتے تھے اب جائز سمجھنے لگے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ایک فلم "خاتمة خدا" نکلی تھی اس میں حج وغیرہ کا پروگرام دکھایا جاتا تھا اس بارے میں حضور مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا، دین کو تماشا بنانا جائز نہیں۔ اور اب جو لوگ اس قسم کا فتوی دے رہے ہیں کہ تصویر دیکھنا اور یہ اور تصویر بنانا اور ہے، بنانا حرام ہے اور دیکھنا جائز ہی نہیں بلکہ نہایت ہی مشکن ہے۔ ان کے قول اور فتوی میں تاقضی ہے، اور ان کا یہ فتوی حضور سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقصاد ہے اور کھلے طور پر دین کو تماشا بنانا ہے، اس کی اجازت نہ اعلیٰ حضرت نے دی اور نہ ہی حضور مفتی اعظم ہند نے بلکہ آج بھی ہمارے اکابر علماء الہی سنت اُنی وی اور مسووی کو دیکھنے پر ناجائز و حرام کا حکم دیتے ہیں، اور اُنی وی کے جو مضر اثرات ہیں اس سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ لہذا صورت مستقرہ میں اُنی وی چیزوں میں کوئی پروگرام ہو، اس پر ذمی

روح کی تصویر دیکھنا و کھانا مثل سنیما حرام بد انعام بلکہ سنیما سے زیادہ خرابیوں پر مشتمل کام ہیں کہ یہ ایک قسم کی تصویری کشی اور صورت گری ہے۔ اس کی شریعت محمدی میں ہرگز اجازت نہیں اور اس میں علت حرمت یعنی مصاہاۃ خلق اللہ۔ بدرجہ آخر پائی جاتی ہیں، اس لئے یہ تصاویر جانداروں کی طرح حقیقی پھر تی کلام کرتی نظر آتی ہیں اور رائی ان کو جاندار ہی تصور کرتا ہے (چاہے حقیقتہ ایسا نہ ہو) جب ساکت اور غیر متحرک تصاویر مصاہاۃ خلق اللہ کی وجہ سے حرام ہیں، تو یہ تصاویر بدرجہ اولیٰ دائرہ حرمت میں داخل ہیں۔ اور جو لوگ اس کو جائز کہتے اور دیکھنے و کھانے پر زور دیتے ہیں، وہ غلط روشن پر ہیں، اس سے بازاً آئیں اور اپنے قول سے رجوع کر کے تو بہ استغفار کریں واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) سی ڈی اور مووی جس میں پچھر آتا ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو جواب اول میں مذکور مسطور ہوا، یعنی سی ڈی اور مووی میں پچھر دیکھنا ناجائز و حرام ہے، ہاں اسکرین بند کر کے صرف نعت و تقریر سے تو یہ جائز ہے۔ اور قوالی سننا ناجائز و منوع ہے کہ اس میں مزمیں ای آواز ہوتی ہے اور مزمیں کی آواز حرام ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) سی ڈی میں علماء کرام و مشائخ عظام و دیگر لوگوں کی تصاویر قید کر کے دیکھنا و کھانا یہ بھی ناجائز و گناہ ہیں کہ جانداروں کی تصویر بنانا و بنانا خواہ کمربہ کے ذریعہ سی ڈی میں قید کرے یا کسی طریقہ سے بنائی جائے اور محفوظ کرے اگر نتیجہ میں تصویر وجود میں آئی تو وہ فعل ضرور حرام ہو گا اور یہ کھینچنا بہ نص شرعاً حرام ہے اور اس کی حرمت پر احادیث کثیرہ شاہد ہیں مزید تفصیل

سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کے رسالہ مبارکہ عطا یا القدیر فی حکم التصویر اور قاضی القضاۃ فی الہند حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خاں قادری ازہری دام ظلہ العالیٰ کے رسالہ بنا م ”ذی اور ویڈیو کا آپریشن میں ملاحظہ کریں واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ محمد کوڑ علیٰ رضوی

مرکزی دارالافتاء ۸۲ء سوداگران بریلو شریف

۱۹ ربیعان المظہم ۱۴۳۰ء

صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

قاضی محمد عبدالرحمیم بستوی غفرلہ القوی

صحیح الجواب: ذی وی پر ذی روح کی تصاویر کی نمائش ضرور حرام ہے ان تصاویر کو دیکھنا بدکام بدأنجام ہے اور اس کو دیکھنے والے ضرور اس وعید شدید کے تحت آتے ہیں جو سرکار ابید قرار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تصویر سازوں کے حق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنائی وہ حدیث جامع صحیح بخاری میں ہے اور اگر تصویر علماء و مشائخ کی ہوتواں کا دیکھنا دکھانا عام تصویر سے زیادہ حرام بدکام بدأنجام ہے۔ یونہی دینی جلوسوں کو فلماتا اور ذی وی ویڈیو پر اس کی نمائش کرنا عام تماشوں سے زیادہ بد اور منوع اشد ہے تو یہ دین کو تماشہ بنانا ہے اور دین کو تماشہ بنانا حرام بدکام بدأنجام ہے۔

سینما جدید ترین شکل ہے ماضی قریب میں سینما کو ہر خاص و عام بردا سمجھتا تھا اور آج بھی فلمیں رکھنے والے لوگوں کے نزدیک سینما سخت نہ موم ہے اگرچہ اسے اب کوئی دوسرا نام دیا جائے، نام بدلنے سے حقیقت نہیں

بدل جاتی ہے تو سینما سینما ہی رہے گا اور تماشہ تماشہ ہی رہے گا اور کوئی تماشہ اسلامی کہنے سے اسلامی نہ ہو جائے گا بلکہ تماشہ کو اسلامی پروگرام جانے ماننے سے اجماع مسلمین کی مخالفت اور سینما کے جواز میں مودودی کی موافقت کا الزام اور ہنا ہو گا ماضی قریب میں مودودی کے سو اکسی نے سینما کو جائز نہ جانا اور اس کی حرمت پر تمام علماء کا اتفاق رہا جس پر مفتی اعظم ہند کا وہ فتوی جس کا ذکر جواب میں ہوا ہے اس فتوے پر اس دور کے تمام علماء کا اطلاع و اتفاق اس اجماع قدیم کے ساتھ منضم ہے جو تصور یہی روح اور اس کی نمائش اور تماشے کی حرمت پر مستتر ہے اور مسلمانوں میں چلا آرہا ہے یہ اجتماعی مسئلہ کسی کے خلاف سے خلافی نہ ہو جائے گا بلکہ اختلاف خلاف خود رہو گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ

(قاضی القضاۃ فی الہند)

مرکزی دارالاوقاف، ۸۲۰ سواداگران بریلی شریف

۱۳۳۲ھ / جمادی الاولی ۲۵

فقیر محمد اختر رضا قادری غفرلہ

### (۱۱) قربانی کا حکم

سوال: قربانی کے بڑے جانور مثلاً گائے کو چھوٹھوں نے برا بر و پے لگا کر خریدا  
ہر ایک نے حصہ اپنے نام سے اور ساتواں حصہ سب نے مل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم  
یا کسی بزرگ یادوسری کسی میت کے نام سے قربانی کی تو یہ درست ہے یا نہیں؟  
زید کا کہنا ہے کہ قربانی درست نہیں جب کہ عمر و کا کہنا ہے کہ قربانی  
درست ہے زید کہتا ہے کہ قربانی عبادت مالیہ ہے۔ قال تعالیٰ فصل لربك  
و انحر۔ اور قربانی میں قربت شرط ہے یعنی چھوٹے جانور کی قربانی ایک شخص  
تہا کرے گا اور بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ سات آدمی شریک ہو سکتے  
ہیں اس شرط کے ساتھ کہ کسی کا حصہ ساتویں سے کم نہ ہو۔ اگر کسی نے آدھا  
پون حصہ لیا تو کسی کی قربانی نہ ہوگی۔ اور میت کی جانب سے قربانی کا واقع  
ہونا احساناً جائز ہے۔ جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے، نیز زید کہتا ہے  
کہ ذائق کے حصہ میں عدم تجزی شرط ہے مذبوح عنہ کے حصہ کا اعتبار نہیں ہے۔  
عرض: میت کی جانب سے قربانی کرنے کی دو صورتیں ہیں (۱) و میت کے  
مطابق (۲) تبر عاً ثواب پہنچانے کے لئے۔ تبر عاً کے متعلق فتاویٰ شامی میں  
ہے: وَإِنْ تَبَرْ عَبَّاهُ عَنْهُ لَهُ الْأَكْلُ لَا نَهُ يَقْعُدُ عَلَى مُلْكِ الْذَّابِحِ  
وَالشَّوَّابُ لِلْمَيْتِ وَلَهُذَا لَوْ كَانَ عَلَى الْذَّابِحِ وَاحِدَةٌ عَنْهُ اضْحَيْتَهُ  
(رد المحتار کتاب الاوضاعیة)۔ فتاویٰ رضویہ میں اعلیٰ حضرت ایک  
سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

سوال: کیا ایک قربانی تین آدمی کے نام سے جو مر گئے ہیں جائز ہے؟  
جواب: قربانی اللہ تعالیٰ کے لئے کی، ثواب تین کو کیا تمام امت مرحومہ کو پہنچا

سکتے ہیں، ہاں اگر میت نے وصیت کی ہے تو ہر ایک کے لئے الگ الگ  
قربانی ضروری ہے۔

عرض سائل: ہمارے دارالافاء سے قربانی کے جواز کا ہی فتویٰ دیا جاتا ہے  
اور اس علاقہ کے لوگوں کا عمل بھی جاری ہے شایی اور فتاویٰ رضویہ کی مذکورہ  
بالاعبارت کیوضاحت فرمادیں تاکہ ذائق اور مذبوح عنہ کے درمیان کا شہہ  
راہیں ہو جائے۔ فقط والسلام من الاحترام

عبدالستار خادم: جامع قادریہ مقصود پور اور ای مظفر پور، بہار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحواب: اللهم هداية الحق والصواب: عمرو كا قول درست ہے صورت  
مسئولہ میں قربانی درست ہے، تمام بلا دوام صار میں مسلمانوں کا بلا نکیر یہ عمل  
چلا آ رہا ہے کہ بڑے جانور کو چند لوگ پانچ یا چھٹل کر خریدتے ہیں اور ایک  
حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رکھتے ہیں جسے سرکاری حصہ عرف  
عام میں کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کے  
زمانے سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ بڑے جانور کی قربانی میں سرکاری حصہ  
ہوتا ہے، حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ نے بھی اس قربانی کو ناجائز نہ  
فرمایا، ان کے گھر میں اور ان کے خاندان میں اور اعزہ واقارب و متسلین  
میں اس طرز پر قربانی معمول و متواتر رہی اور آج بھی یہ تعامل جاری ہے  
اور تعامل مسلمین جھٹ ہے نیز صحیح فعل مسلم بقدر امکان واجب ہے، اسی مسئلہ  
وائرہ کو دیکھئے جس میں چھٹر کا ہیں قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہ قربانی صحیح نہ ہو لیکن  
صحیح فعل مسلم کے لئے احساناً اس کی صحت کا حکم علام دیتے ہیں،

بدائع، شامی اور تبیین میں ہے: وَ الْفَظُ لِلتَّبِیِّنِ:

لو كا نت البدنة بين اثنين نصفان يجوز في الاصح لان  
نصف السبع يكون تبعاً ثلاثة الاسباع۔ (٢٤٦)

ہدایہ میں ہے: تحوز عن خمسه او سته او ثلثة ذکرہ  
محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فی الاصل، لانہ لما جاز عن سبعة فعن  
دونهم اولی و لاتحوز عن ثمانیة اخذنا بالقياس فيما لانص  
فیه، و کذا اذا كان نصيب احدهم اقل من السبع۔ (٣٩٧)

خلاصہ عبارت یہ ہے کہ ایک بڑا جانور دو، تین، پانچ، چھ افراد کی  
طرف سے قربان کرنا جائز ہے اور آٹھ آدمیوں کی شرکت قیاس پر عمل کرتے  
ہوئے ایک جانور میں جائز نہیں، اور یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کسی  
شریک کا حصہ ساتویں حصے سے کم ہو۔ اس لئے کہ ایک حصہ برابر برابر بٹئے  
کے بعد باقی حصہ جو ساتویں حصے سے کم ہے وہ پورے حصے کے تابع ہے تو  
اس طرح گویا بلکہ ہر ایک کا ساتواں حصہ بلکہ اس سے زائد ہے لہذا اس کے  
پیش نظر یہ قربانی جائز ہے اگرچہ ایک وجہ اس کے عدم جواز کی متفقی ہے اور  
وہ باقی مشترک ہے جو ساتویں حصے سے کم ہے اسی لئے شیخی میں بعض سے  
عدم جواز نقل گیا وہذا نصہ، قال بعضهم لاتحوز لان لکل واحد  
منهما ثلاثة اسباع ونصف سبع و نصف السبع لا يجوز في  
الاضحية فإذا صادر لحم ما صار الباقى لحمـا۔ (٢٤٦)

نیز در مختار میں ہے: ولو أحادهم اقل من سبع لم يجز عن  
احدو تحجزى عمادون سبعة بالاولى۔

اس کے تحت رد اخبار میں ہے: نو اشتراك سبعة فی خمس بقرات او اکثر صبح لان لکل منهم فی بقرة سبعها لا ثمانیة فی سبع بقرات او اکثر لأن کل بقرة علی ثمانیة منهم فکل منهم اقل من السبع ولا روایة فی هذه الفضول، ولو اشتراك سبعة فی سبع شیاة لا يحزم لهم قیامًا لأن کل شاة بینهم علی سبعة اسهم و فی الا استحسان يحزم لهم و کذا اثنان فی شاتین و علیه فینبغی ان يكون فی الاول قیام و استحسان والمذکور فيه جواب القیام۔ (۲۲۱۵)

مذکورہ عبارات سے ظاہر ہے کہ ایک بڑے جانور میں چھٹہ شریک ہوں یا سات افراد پانچ یا چھہ یا سات گائے میں شریک ہوں تو قیام کے مطابق ہر صورت میں ایک ہی جواب ہے کہ یہ قربانی جائز نہیں، ہلکی سے اس کی وجہ گزرنی کہ باقی حصہ ساقویں حصے سے کم ہے اور اس کی قربانی جائز نہیں مگر احساناً ان سب صورتوں میں قربانی جائز ہے کہ کسی کا حصہ ساقویں سے کم نہیں اور باقی جو ساقویں حصے پر زائد ہے وہ تابع ہے۔

علاوه ازیں اسی رد اخبار میں افادہ فرمایا کہ اگر سات آدمی سات بکریوں میں شریک ہوں تو قیام اسکی کی قربانی صحیح نہیں اور احساناً قربانی ہو جائے گی یونہی اگر دو آدمی دو بکریوں میں شریک ہوں تو بخلاف قیام قربانی نادرست ہے اور احساناً حکم جواز ہے عبارت گزرنی۔

اب مسئلہ دائرہ مستولہ عنہا کی طرف چلتے:

فأقول وبالله التوفيق: جب ایک بڑے جانور میں چھٹہ کی شرکت جائز اور سب کی قربانی صحیح تو کیا وجہ ہے کہ ساقوں اس سرکاری حصہ ناجائز ہو حالانکہ

سائل مذکورہ کے پیش نظر جن میں صحیح فعل مسلم بوجہ مذکور کی تجھی یہاں بھی ممکن ہے، اور ادنیٰ تامل سے ظاہر ہے کہ صورت مسئلہ اس جگہ بھی وہی صورت مذکورہ ہے، حقیقتہ چھہ شریک ہیں اور قربانی حقیقتہ انہی چھہ کی طرف سے ہے اور ساتواں حصہ جو مشترک ہے اس میں ہر شریک کے حصے کی مقدار اس کے ایک حصے کے تالع ہے تو گویا ہر ایک کے لئے ساتواں حصہ ہے اور ان سب شرکاء نے اپنے اپنے باقی ماندہ حصے کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نذر کر دیا تو ثواب کے پیش نظر اس حصے کی قربانی سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے ہوئی اور حقیقتہ ان چھہ شرکاء کی طرف سے یہ قربانی ہوئی اور ثواب میں کچھ ایک کی تخصیص نہیں، بہت سے لوگوں کو بلکہ تمام امت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ سائل نے رواجاہار سے نقل کیا:

وَإِنْ تَبْرُعَ بِهَا عَنْهُ لِهِ الْأَكْلُ لَا نَهُ يَقْعُدُ عَلَى مُثْلِكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابِ  
للعمیت ولبنا لو کان علی الذابح واحدة سقطت عنه اضاحیہ۔ (۲۳۶/۱۵)  
یعنی اگر کسی نے میت کی طرف سے بے حکم میت تبرعاً قربانی کی تو اسے کھانا جائز ہے اس لئے کہ قربانی ذانع کی ملک پر ہوئی (یعنی حقیقتہ قربانی ذانع نے کی) اور اس کا مؤید ہے جو ہم نے ابھی کہا، اور اسی لئے اگر ذانع پر ایک قربانی واجب ہو تو اس سے فرض اضاحیہ (قربانی) ساقط ہو جائے گا۔ یہ صریح جزئیہ اس کا مؤید ہے جو ہم نے ابھی کہا، اس کی ایک نظیرہ مسئلہ ہے جو ہدایہ وغیرہ میں ذکر کیا گیا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑا جانور سات آدمیوں نے مل کر خریدا تاکہ اس کی قربانی کریں ایک شریک مر گیا وارثوں نے شریکوں سے کہا کہ تم اپنی طرف سے اور میت کی طرف سے یہ قربانی کر اوچنا نچہ ہدایہ میں ہے: اذا اشت ری سبعة بقرة ليضحوها بها فمات

احدهم قبل النحر و قالت الورثة اذبحوه اعنہ و عنکم  
اجزاهم۔ و وجهہ ان البقرۃ تحوز عن سبعة لكن من شرطہ ان  
یکون قصد الكل القریۃ، و ان اختلف جهاتھا کلًّا ضحیۃ والقرآن  
و المتعة عندنا لا تحد المقصود وهو البقرۃ وقد وجد لأن  
التضجیہ عن الغیر عرفت قربۃ، الا ترى ان النبی صلی اللہ تعالیٰ  
علیہ وسلم ضحیۃ عن امته علی ماروینا من قبل، (٤٠١-٢١٢)

خلاصہ عبارت یہ ہے: اگر سات آدی قربانی کے لئے ایک گائے  
خریدیں اور قربانی سے پہلے ایک شریک مر جائے اور اس کے ورشہ شرکا کو  
اجازت دیں کہ وہ اس گائے کو اپنی طرف سے اور میت کی طرف سے قربانی  
کر دیں اس صورت میں ان کی قربانی ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے  
میں سات کی قربانی جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سب کا مقصود قربت ہو اگرچہ  
جهات قربت مختلف ہوں جیسے ہمارے نزدیک قربانی اور قرآن و تبتخ اس لئے  
کہ ان مختلف جهات میں مقصداً ایک ہے اور وہ قربت ہے اور وہ پایا گیا اس  
لئے کہ غیر کی طرف سے قربانی شرع میں قربت معروفہ ہے کیا تم نہیں دیکھتے  
کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی انجمنی ملخھا۔

یہاں سے حکم مسئلہ صاف ظاہر ہوا اور وہ یہ کہ صورت مسئولہ بعضیہ  
ہدایہ وغیرہ میں مسئولہ مسئلہ کی نظر ہے کہ ہر دو مسئلہ میں ایک جانور میں سات  
ہی شریک ہیں اور دونوں جگہ مقصود ایک ہے جو قربت ہے نیز یہ بھی ظاہر ہوا  
کہ غیر کی طرف سے قربانی کرنا خصلص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نہیں  
کہ انجمنی پر مقصور ہو بلکہ اس سنت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی ان

کی امت کو جائز ہے اور حضور کی تلقین و تعلیم سے دوسروں کو بھی یہ روا ہے کہ اضحیہ عن الغیر کی سنت انجام دیں اور اس کا ثواب ایک کویا زیادہ کو یا تمام امت مرحومہ کو پہنچا سیں اس سلسلے میں صحیح فعل مسلم کی ایک اور نظیر پیش کی جاسکتی ہے جس کے پیش نظر مسئلہ دائرہ کا جواز روشن تر ہو گا اور اس قربانی کا صحیح ہونا بدرجہ اولیٰ ظاہر ہو گا وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بڑا جانور خریدا پھر قربانی سے پہلے ان میں چھا دمیوں کو شریک کر لیا قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ قربانی کسی کی صحیح نہ ہو کہ اس جانور میں چھر کی شرکت تمول کے بغیر نہیں ہو سکتی اور تمول کا مقتضی یہ ہے کہ وہ ایک حصہ اپنے لئے رکھے باقی چھر حصے پھر شرکا کو بیچے اور ان سے اس کی قیمت لے بھی تمول ہے جو منافی قربت ہے اور اس صورت میں صراحت رجوع عن القریۃ ہے اس کے باوجود فقہا اس صورت کے جواز کا حکم دیتے ہیں چنانچہ ہدایہ میں ہے: ولو اشتري بقرة يريد ان يضحي بها عن نفسه ثم اشتراك فيها ستة جاز استحسانا والا حسن ان يفعل ذلك قبل الشراء ليكون ابعد عن الخلاف و عن صورة الرجوع في القرية (ملخصا ۳۹۸/۲)

جب اس صورت میں باوجود تمول و صورة رجوع عن القریۃ حکم جواز ہے تو صورت مسئول میں بدرجہ اولیٰ وہی احسان جاری ہو گا جو ہدایہ میں میت کے وارثوں کی طرف سے شرکا کو اذن قربانی دینے کی صورت میں بتایا اور جس احسان کو زید اس صورت میں مانتا ہے وہی احسان یہاں بھی جاری ہے کہ صورت وہی صورت ہے اور قربت وہی قربت ہے جو قائم ہے اور یہ مسئلہ اضحیہ عن الغیر کا ہے جس کی مشروعیت پر ہدایہ کی نص گزری اور

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فعل بطور سند مذکور ہوا علاوہ ازیں اعلیٰ حضرت کا  
وفتویٰ جو سوال میں نقل کیا گیا ہماری مذکورہ تفصیل کا خلاصہ ہے اور وہ ہمارا  
مودید ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

قالہ بفمه و امر بر قمه

محمد اندر رضا قادری از ہری

مرکزی دارالافتاء بریلی شریف یونی

صح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

محمد ناظم علی قادری بارہ بنکوی

الحکم ہوا حکم۔ واللہ تعالیٰ اعلم

قاضی شہید عالم رضوی، مورخہ ۳۰ رب جادی الآخری ۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حکیم محمد مظفر حسین قادری

صح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

محمد افضل رضوی سرگنی ۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح والجیب مثاب۔ واللہ تعالیٰ اعلم

محمد ناظراشرف قادری

دارالعلوم اعلیٰ حضرت، ناگپور

قد اصحاب الجیب فی الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

محمد عبد الرحمن غفرلہ

صح الجواب۔ واللہ تعالیٰ اعلم

محمد شعیب رضا قادری نعمی

هذا حکم العالم المطاع وما علينا الا التباع۔ والله تعالى اعلم

محمد کوثر علی رضوی

مرکزی دارالافتاء ۲۸۲ سوداگران بریلی شریف

۲ جمادی الآخری ۱۴۳۲ھ

۹۲/۷۸۶ سیدی و استاذی حضور تاج الشریعہ مدظلہ العالی کاملہ و میر، ن  
فوی ہے اس سلسلے میں جن شبہات کا اندریش ظاہر کیا گیا ہے ان سب کا  
جواب باصواب ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

محمد یوسف رضا الاؤسی الرضوی غفرلہ

خادم الافتاء والدریس جامعۃ الرضا بریلی شریف

۳ رجب اولیٰ الآخری ۱۴۳۲ھ

لقد اصحاب من اجاب واللہ تعالیٰ اعلم

محمد ناظم علی رضوی مصباحی

استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پورا عظیم گڑھ

۱۴۳۲/۸/۳ ۱۴۳۲ھ بروز پختہ مبارکہ

صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

محمد رفیق عالم رضوی

استاذ جامعہ فوریہ رضویہ بریلی شریف

صورت مسئولہ میت والا جزیہ صراحتاً اس پر دال ہے۔

لہذا امیرے زدہ یک حضور تاج الشریعہ قبلہ کا جواب حق و تحقیق ہے، واللہ تعالیٰ

اعلم۔ بہاء المصطفیٰ قادری  
 صحیح الجواب والجیب مصیب و مشاب واللہ تعالیٰ اعلم  
 محمد عبدالرحیم نشرت فاروقی غفرانہ القوی  
 خادم الافتاء و الطالباء جامعۃ الرضا بریلی شریف  
 تتمہ:

عمرو کا قول کہ مذبوح عنہ کے حصے کا اعتبار نہیں وجہ صحت رکھتا ہے اور شامی سے جو جزیہ سائل نے نقل کیا اس میں ادنیٰ تامل سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں قربانی میں قربانی حقیقتہ ذائق کی طرف سے ہوگی اور ثواب مذبوح عنہ کے لئے ہو گایہ، ہم کو مضر نہیں بلکہ ہمارا مودید ہے کہ اس کا صرتع مفاد یہی ہے کہ قربانی احیا کی طرف سے ہے جو میت کے لئے بطور تبرع کی گئی اور وہ حصہ احیا کی ملک پر ہے ہاں ثواب میت کے لئے ہے اور جب مذبوح عنہ کے حصے کا اعتبار نہیں تو حقیقتہ چھٹہ شر کا ہی رہے اور مسئلہ وہی رہا جو ہدایہ سے پہلے مذکور ہوا اور اس میں وہی قیاس اور اس کی رو سے وہی حکم یعنی عدم جواز اور وہی احسان یہاں بھی جاری ہے جو دلیل جواز ہے، عمرو میت کی طرف سے بحکم ورش قربانی کو بوجہ احسان جائز مانتا ہے وہی احسان جو اس مسئلہ کا صحیح ہے جو ہدایہ تبیین وغیرہ سے گزر اس کاری حصے میں اس احسان کے جاری ہونے سے کیا مانع ہے اور خود عمرو کا قول مذبوح عنہ کے حصے کا اعتبار نہیں یہاں کیوں جاری نہیں۔

کتبہ

عاشق حسین کشمیری رسمی ۲۰۱۱ بروز منگل

## (۱۲) بوسیدہ قرآن کے دفن کا طریقہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ذمیل کے مسئلہ میں زید جو کہ مسجد میں امامت کرتے ہیں عالم دین ہیں خطیب بھی ہیں کچھ لوگوں نے زید سے دریافت کیا کہ قرآن کریم بوسیدہ ہو جائے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا ہواں کے متعلق کیا حکم ہے؟۔ اس پر زید نے کہا کہ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو قربستان میں دفن کر دیا جائے دوسری صورت میں وزن کے ساتھ پوٹی میں باندھ کر دیا میں ڈال دیں لوگوں نے پھر سوال کیا کہ کلام الہی کو کیسے جلایا جاسکتا ہے تو زید نے کہا کہ کلام الہی کو کلام الہی نہ مانتے ہوئے جلا سکتے ہیں۔ زید کا یہ قول کہ قرآن پاک کو کلام الہی نہ مانتے ہوئے اس کو جلا سکتے ہیں کیا یہ کہنا درست ہے۔ زید کے لئے جو حکم شرع ہو بتلایا جائے

### فرقان علی

محلہ حبیب اللہ خاں جنوبی نزدہ اکثر ریحان علی  
 پبلپور ضلع پیلی بھیت

۲۶۲۲۰۱

موباکل نمبر: ۹۹۱۷۲۳۸۸۵۵

الحواب بعون الملك العزيز الوهاب۔ بہار شریعت حصہ سولہ ص ۱۱۸ پر ہے قرآن مجید پر اتنا بوسیدہ ہو گیا اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے

اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہوں گے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے اور دفن کرنے میں اس کے لئے مدد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے یا اس پر تختہ لگا کر چھت بنائی ڈالیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے مصحف شریف بوسیدہ ہو جائے اس کو جایا نہ جائے۔ لہذا صورت مستفسرہ میں زید نے غلط مسئلہ بتایا بوسیدہ قرآن مجید کو جلانے کا نہیں دفن کرنے کا حکم ہے اور غلط مسئلہ بتانے والے پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افتی بغير علم لعنته ملائكة السماء والارض فقاومي رضويه شریف جلد نہم ص ۲۷ پر ہے مصحف کریم کا احراق جائز نہیں نص عليه في الدر المختار بلکہ حفاظت کی جگہ دفن کیا جائے جہاں پاؤں نہ پڑے اور اگر تھوڑے اوراق ہوں تو اولیٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پکھوں کو ان کے تعویذ تقسیم کر دیئے جائیں اور زید کے خط کشیدہ جملے بھی غلط و باطل ہیں زید پر لازم ہے کہ خط کشیدہ جملے سے رجوع کر کے علاویہ تو بہ و استغفار کرے اور آئندہ غلط مسئلے بتانے سے اجتناب و احتراز کرے تاوقتیکہ زید حکم مذکورہ پر عمل نہ کرے اس سے تعلقات اور اس کی اقداء میں نماز جائز نہیں قال الله تعالى فلا تقععد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ہاں جب حکم مذکورہ پر عمل کر لے تو تعلقات اور اس کی اقداء میں نماز جائز ہے جب کہ اور کوئی وجہ شرعی مانع نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم اور احتیاطاً تجدید ایمان بھی کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

صح الجواب

فقیر محمد اختر رضا قادری غفرلہ  
جواب درست ہے واللہ تعالیٰ اعلم  
مرکزی دارالاقناء بریلی شریف

کتبہ

محمد کوثر علی رضوی

مرکزی دارالاقناء ۸۲۴ سوداگران بریلی شریف ۱۳۲۵ھ

صح الجواب: واللہ تعالیٰ اعلم

حکیم محمد مظفر حسین قادری

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ  
تقریباً تین سال قبل زید کا انتقال ہو گیا ہے جس نے دو شادیاں کی تھیں بڑی  
بیوی کا زید کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا جس سے تین بیٹے اور چھ بیٹیاں  
ہیں اور زید نے اپنے انتقال سے چھ ماہ قبل ایک اور عورت سے شادی کی  
جس سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور وہ دوسری بیوی باحیات ہے۔ اور زید نے  
ترکہ میں ۱۲۰ میکڑ زمین، ۱۲ مکانات اور ۳۔۔۔ (پلاٹ) چھوڑا ہے اب  
ضروری عرض یہ ہے کہ زید کا ترکہ کس طرح تقسیم ہو اور اس میں سے مذکورہ  
بالا افراد میں کسے کتنا حصہ ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کے  
سامنہ آسان انداز میں جواب عنایت فرمائیں فوازش ہو گی۔

فقط والسلام

محمد رفق

گورکالونی پورا نا ہر لا پور

ہر سی ہر ضلع واں تکرہ

کرناٹک

زید

بیوی بینا بینا بینی بینی بینی بینی

۱

۷

۱۲

۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳

الجواب بعون الملك العزيز الوهاب۔ بعد تقديم ما قدم وادعه ديوان عدم  
وارث آخر زيد کا کل تركہ چھانوے سهام (حصہ) پر بلکہ بارہ ۱۲  
سهام (حصہ) یوں کو چودہ چودہ سهام (حصہ) تینوں بیٹوں کو اور سات سات  
سهام (حصہ) بھائیوں کو ملیں گے حکم الكتاب (الكتاب) والله تعالیٰ اعلم۔

صحیح الجواب والله تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری

محمد مظفر حسین قادری

کتبہ

محمد کوثر علی رضوی

مرکزی دارالافتاء، ۸۲، سوداگران

بریلی شریف، ۲۱، محرم الحرام ۱۴۳۶ھ

کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام مسئلہ ذیل میں  
سوال نمبر ۱۔ قربانی کرنے کے بعد جو بھی ہوتی ہے اس کو گھر میں  
لوگ پکا کر نیاز کرواتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں یہ نیاز کیوں کرواتے  
ہیں اور کس کی نیاز ہوتی ہے کیا یہ ضروری ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں  
ترجیح فرمائیں

**امستقیم:** محمد رضی خاں رضوی (تلبر)

**الجواب:** بعون الملك العزيز الوهاب: قربانی کی بھی پر بھی نیاز جائز و  
درست ہے اور ہر اس چیز پر نیاز دلا سکتے ہیں جو حلال و طیب ہو اور کسی بھی  
بزرگ کے نام ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور ایصال ثواب مستحب و مسخر  
ہے خواہ کسی سنی مسلمان کے لئے ہو:- واللہ تعالیٰ اعلم اور یہ ضروری نہیں ہے  
واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ

محمد کوثر علی رضوی

مرکزی دارالاوقاف ۸۲۰ سوداگران بریلی شریف ۷ ارڈی ۱۳۳۲ ھج

صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضا قادری غفرل

صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

حکیم محمد مظفر حسین قادری

سوال (۱) کوئی شخص اکیلے یعنی تہبا یا جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھنے  
کی حالت میں اسکا سر یا جسم حرکت یعنی ہل رہا ہے ایسی صورت میں کیا حکم  
ہے نماز میں کمی یعنی ثواب میں کمی ہوئی یا نہیں جیسے کسی کی زبان سے حرف

نہیں نکل رہا ہے اور وہ نکالنا چاہ رہا ہے تو اس کو نکالنے میں سر اور جسم ہلا۔  
اسی صورت میں کیا حکم ہے تحریر فرمائیں حدیث و قرآن کی روشنی میں۔  
سوال (۲) جیسے کہیں تیجہ یا نیاز وغیرہ میں بیش آیات پڑھتے ہیں کئی لوگ کسی  
نے شروع میں اعوذ باللہ نہ پڑھی اور بسم اللہ سے پڑھنا شروع کیا ایسی  
صورت میں کیا حکم ہے اعوذ باللہ پڑھنا کیا واجب ہے تحریر کریں؟  
امستقتو: محمد رضی خاں رضوی تلمیز

الجواب: بعون الملك العزيز الوهاب۔ بہار شریعت حصہ سوم ص ۳۷۸  
یہ دانے با میں جھومنا مکروہ ہے اور تراویح یعنی بھی ایک پاؤں پر زور دیا  
کبھی دوسرے پر یہ سنت ہے۔ لہذا صورت مستفسرہ میں حالت نماز میں  
جھومنا مکروہ ہے اور اگر عذر شرعی کی بنا حروف ادا کرنے پر سر اور جسم میں  
جنہیں ہوئی تو نماز میں کوئی کراہت نہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے واجب نہیں اور  
ابتدائے سورت میں بسم اللہ سنت ورنہ مستحب لہذا صورت مستفسرہ میں نیاز و  
فاتحہ میں بھی اعوذ باللہ پڑھنا آیات کے شروع میں مستحب ہے۔ اگر کوئی بسم  
اللہ سے شروع کر دے تو گنہ گار نہ ہو گا واللہ تعالیٰ اعلم۔

### کتبہ

محمد کوثر علی رضوی

مرکزی دارالاوقافاء ۸۲۴ ررسوداً اگران

بریلی شریف ۱۸ ارڈی الجہ ۱۳۳۲ھ

صح الْجَوَابُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ  
فَقِيرٌ مُحَمَّدٌ أَخْتَرُ رَضَا قَادِرٌ غَفُولٌ  
صح الْجَوَابُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ  
حَكِيمٌ مُحَمَّدٌ مُظْفَرٌ حَسِينٌ قَادِرٌ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں:  
سوال نمبر ۱: نائی یا انصاری یا ماہی گیر یا مٹھا ران چاروں قوموں  
میں سے کوئی شخص جس کی داڑھی حد شرع میں ہو اور وہ قرآن مجید پڑھتا ہو  
اور اس کی بیوی پر دے میں بھی رہتی ہو اور مسائل نماز سے بھی واقف ہو کیا  
ایسے شخص کو امام بنایا جاسکتا ہے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں تو کوئی کراہت  
نہیں اس کی اقتداء میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

سوال نمبر ۲: سید یا پٹھان ان دونوں قوموں میں سے کوئی شخص جس  
کی بیوی پر دے میں نہ رہتی ہو باہر گھومتی ہو اور وہ مسائل نماز سے بھی واقف  
نہ ہو اور وہ قرآن بھی صحیح نہ پڑھتا ہو اس سید یا پٹھان کے پیچھے نماز درست  
ہو گی یا نہیں؟ بینوا و توجروا۔

لمستقی (قاری) محمد امانت رسول رضوی

(خليفة مفتى اعظم هند) محلہ بھورے خاں پیلی بھیت شریف  
الْجَوَابُ:

فِي الْوَاقِعِ جَبْ كَوَهُ لَوْگُ جامِعٌ شَرَائِطُ اِمَامَتٍ ہیں تو ان کے پیچھے  
نماز بلاشبہ بے کراہت جائز ہے۔ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ۔

النصارى وغيره هونا منع اقتدار نہیں بلکہ اگر دوسرا سید یا پٹھان ہو اور امامت کے لائق نہ ہو اور النصارى وغيرہ اہل امامت ہو تو اسی کو مقدم کرنا لازم اور اس سید یا پٹھان کی امامت کے لئے تقدیر حرام۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔  
فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری غفرلہ۔ ۱۸ جمادی الاول ۱۳۹۹ھ

صحح الجواب والله تعالى اعلم بالصواب:

فقیر مصطفیٰ رضا قادری غفرلہ ۱۸ جمادی الاول ۹۹ھ

سوال: بحضور مفتی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ  
زید و خالد آپس میں رشتہ دار ہیں۔ زید نے ایک زمین محمود و حامد سے خریدی، اور خالد کو یہ بتایا کہ یہ زمین تمہیں مل جائیگی۔ پھر زید نے محمود و حامد سے کہا کہ میری زمین خالد کے ہاتھ تمہیں پہنچا ہے چونکہ خالد میر ارشتہ دار ہے۔ لہذا میر اب اس کرتا اچھا نہیں۔ زید نے خالد اور حامد و محمود کو جمع کیا حامد و محمود نے خالد سے پچیس سوروپے گز کے دام مانگے خالد نے تیس (۲۳) سوروپے کہے زید نے ساڑھے تیس سوروپے میں فیصلہ کر دیا خالد نے خوش ولی سے منظور کر لیا۔ اور چند روز بعد رجسٹری کرالی۔ زید نے بطور قرض پہنچتیس ہزار روپے خالد کو دیئے اور رجسٹری وغیرہ میں کافی ہمدرودی کا مظاہرہ کیا۔ خالد بہت خوش تھا کہ مناسب جگہ مناسب قیمت پر مل گئی کیونکہ وہاں جگہ فی الوقت پچیس سوروپے کو درستیاب نہیں۔

بعد ڈیڑھ ماہ کی طرح خالد کو یہ معلوم ہو گیا کہ زید نے اس بہانے سے کافی منفعت حاصل کر لی۔ اور خالد نے اسی غیظ و غصب میں دلال وغیرہ نازیبا الفاظ کہے۔ اور اب زید کا جو قرض اس کے اوپر تھا اس کے دینے سے انکار کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ زمین

ہم نے خرید لی ہے اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم تمہیں ذمہ دار نہ بنتاتے اور اپنے حساب سے دام طے کرتے۔ زید کا کہنا ہے کہ تم نے خوب سوچ سمجھ کر معلومات کر کے اپنی رضا سے زمین خریدی اور تک خوشی کا اظہار رہا جیک یہ معلوم نہ ہوا کہ اس میں مجھے بھی فائدہ ملا ہے۔ اور یہ کہ میں نے یہ تدبیر اس لئے کی کہ تم یہ زمین خرید لو پھر میں تمہارے برابر بننے والی زمین خرید لوں تاکہ دونوں کے مکان برابر برابر ہو جائیں۔ میں نے چونکہ معلوم کر لیا تھا کہ چوبیس پچس سوروپے سے کم کو وہاں زمین نہیں ملے گی اس لئے تمہیں اس طریقے سے زمین دلوادی۔ لیکن خالد زید کو عیار و مکار ہی تصور کرتا ہے اور بجائے وہ قرض ادا کرنے کے بائیں ہزار روپے کا اور مطالبہ کر رہا ہے کہ تم نے اس طریقے سے حصے روپے کمائے ہیں وہ سب مجھے دوور نہ پنچایت کروں گا۔ زید نے بات ختم کرنے کے لئے یہ بھی کہا کہ مجھے زمین واپس کر دو اور چوبیس سوروپے گز کے دام مجھ سے لے لو۔ غرض دونوں میں بہت سخت تناؤ کی صورت ہے۔ معاملہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ لہذا اگر ارش کتب مرحمت فرمائیں۔ تاکہ دونوں کے درمیان کشیدگی ختم ہو سکے۔

- (۱) کیا زید کا خالد کو یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ زمین میں نے خرید لی ہے؟ نہ بتانا عیاری مکاری ہے؟
- (۲) کیا اس طرح جو منفعت کمائی وہ ناجائز و حرام ہے؟ یا جائز و طیب؟
- (۳) کیا عند الشرع خالد کو یہ جائز ہے کہ وہ زید کے قرض کے روپے کے ادا نہ کرے بلکہ اورائلے اس سے روپے لے؟
- (۴) کیا مذکورہ طریقے سے بیع نافذ ہو گئی یا نہیں؟ اور اگر نافذ نہ ہوئی تو اب جب کہ رجسٹری ہو چکی ہے تو معاملہ کیسے بنایا جائے کیا واپسی کی صورت میں

رجسٹری فیس بھی واپس کرنا ہوگی۔ یا صرف رقم واپس کی جائیگی؟ واضح رہے کہ زید عالم کہا جاتا ہے۔ خارجی اوقات میں زمین کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے۔ بھی تماز پڑھا دیتا ہے کیا اس کی اس حرکت کے بعد اس کے پچھے تماز درست ہے یا نہیں۔ مفصل و مدل تحریر فرمائے جو اس کے پیشے کی خرید و فروخت کے متعلق ہوں۔

**استفتی:** - ابو صہیب محلہ صالح گر بریلی شریف یونی۔

الحواب اللهم هدايت الحق والصواب: (۱) متعاقدين کے ایک مجلس میں ایجاد و قبول کرنے سے بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ حدایت میں ہے الیع بن عقد بالایحاب و القبول "عقد خواہ مالک و مشتری کریں یا وکیل و مشتری۔ صورت مسئولہ میں بیع نافذ ہوگی اور زید کا خالد کو یہ بتانا کہ یہ زمین میری ہے ضروری نہ تھا۔ اس وجہ سے اس کو عیار و مکار کہنا ایذا مسلم ہے اور ایذا مسلم بلا وجہ شرعاً ناجائز و حرام ہے حدیث شریف میں ہے "من اذى مسلماً فقد اذانى و من اذانى فقد اذى الله" واللہ تعالیٰ اعلم (۲) یہ کمائی جائز و طیب ہے (۳) خالد پر زید کا قرض ادا کرنا فرض ہے، ادا نہ کرے گا تو حق العبد میں گرفتار ہو کر مستحق عذاب نار ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم (۴) جب بیع نافذ ہوگئی تو بعدِ نفاذ بیع خالد کے زمین کو واپس کرنے کی وجہ سے زید پر رجسٹری فیس واپس کرنا لازم نہیں ہاں دونوں میں جو طے ہو جائے اس پر عمل ہو۔ عمل مذکور کی وجہ سے زید کو امام بنانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں جب کہ کوئی اور مائن امامت خرابی نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

صح الحجوب واللہ تعالیٰ اعلم  
قاضی عبدالرحیم بستوی غفرلہ القوی

کتبہ

محمد افضل رضوی

مرکزی دارالاوقافاء ۸۲۰ سوداگران بریلی شریف

۶ ربیعان المظہم ۱۴۲۹ھ / ۱۹ آگسٹ ۲۰۰۸ء

حضرت مفتی صاحب! بعد ما هو المسنون:-

عرض اینکہ خالد کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ ”میں نے مجلس عقد میں تجیس سورو پئے کہے تھے۔ میں نے تو زید کو ذمہ دار بنا دیا تھا تجیس سائز ہے تجیس سب زید ہی نے کہے زید کا کہنا ہے کہ ”میں اس بات کو ایسے وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ قسم کھالوں“ البتہ آخری گفتگو پورے وثوق سے یاد ہے جس پر بات مکمل ہوئی۔ کہ میں نے حامد و محمود کو مخاطب کر کے کہا کہ ان (خالد) کو سائز ہے تجیس سورو پئے میں دیدو۔ حامد و محمود نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے باہر نہیں۔ اس کو خالد نے برضاء و رغبت قبول کیا۔ مجلس برخاست ہوئی اور خالد رقم کی فراہمی میں لگ گیا۔ اخْ حَالَ أَنَّكَدَ قَرِينَ قِيَاسٍ يَہِي ہے کہ تجیس سورو پئے خالد ہی نے کہے ہوں گے۔ لیکن اگر خالد ہی کی بات مان لی جائے تو کیا بیچ منعقد ہو گی یا نہیں؟ اس پر خالد کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس صورت میں لیوا اور بیچا دونوں ایک ہو گئے اور یہ درست نہیں۔ کیا اس کی یہ بات درست ہے؟ جب کہ وہ خود موجود ہے برضاء و رغبت قبول اس نے کیا ہے پہلے سے مجملًا اس کا ریث معلوم ہو چکا ہے۔

اچھا پھر زید نے یہ کہا کہ مان لیجئے عقد منعقد نہیں ہوا۔ تو کیا ہو؟ اس پر خالد کی حمایت میں کہا گیا ”کہ یہ عقد پہلے عقد کی طرف عود کر جائیگا۔ یعنی بجائے سائز ہے تجیس کے اکیس سورو پئے میں منعقد ہو جائیگا۔ یہ بات کہاں

تک اور کیوں کر درست ہے؟ اور یہ کہ اس طرح کمایا ہوا مال طیب نہیں۔ زید کا اپنی خریداری چھپانا خیانت ہے ذرا ان سب باتوں کو تفصیل سے مدلل بیان فرمادیں۔ کیونکہ خالد اور اس کے رشتہ داروں نے زید کو دلال عیار و مکار بتا کر اتنی بدنامی اور بے عزتی کر دی ہے کہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ان بدنام کرنے والوں کا حکم بھی تحریر فرمادیں۔ اور اگر واقعی وہ عقد منعقد نہیں ہوا تو کیا حکم ہے؟ زید پر خالد کا وہ تمام مال جو اس طرح حاصل کیا لوٹانا واجب ہے؟ غرض وہ کیا تدبیر کرے کہ اب آخرت کے مواخذے سے محظوظ ہو سکے۔ اگر اس کے ذمہ خالد کا حق ہے۔

ابو صہیب صالح نگر رملی شریف

الجواب اللهم هدايت الحق والصواب : صورت مسؤول میں زید و کیل اور خالد موکل ہے اور موکل جب مجلس عقد میں موجود ہو تو کلام و کیل موکل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ هدایہ میں ہے ”لَمْ كَلَمُ الْوَكِيلَ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمَوْكِلِ“ عند حضورہ فصار کامن متكلم بنفسه لیهم ”زید نے وقت انعقاد عقد جب حامد و محمود سے کہا ان (خالد) کو سائز ہے تھیں سور و پے میں دید و حامد و محمود کا کہنا صحیح ہے ہم آپ سے باہر نہیں اس کو خالد نے برضا و رغبت قبول کیا اور پھر رقم کی فرائی میں لگ گیا۔ لہذا خالد کا مجلس میں موجود ہوتا اور اس عقد کو برضا و رغبت قبول کرنا پھر رقم کی فرائی میں لکھنے کی وجہ عاقد نجع خالد ہی ہوا اور یہ عقد بلاشبہ منعقد ہو گیا۔ جب عقد منعقد ہو گیا تو یہ پہلے والے عقد کی طرف ہرگز ہرگز عونوں میں کرے گا۔ اور اس طرح کمایا ہوا مال یقیناً مالی طیب ہے اور زید کا اپنی خریداری چھپانا ہرگز خیانت نہیں حاصل خالد اپنے تینوں دعووں (۱) یہ عقد پہلے عقد کی طرف عونوں کر

چاہیگا (۲) اس طرح کمایا ہو اماں طیب نہیں (۳) زید کا اپنی خریداری چھپانا خیانت ہے پر دلائل پیش کرے ورنہ رجوع کرے۔ جب زید کا یہ عمل شرعاً قابل گرفت نہیں تو وہ اس عقد کی وجہ سے آخرت کے مواخذہ سے بری ہے۔ خالد اور اس کے رشتہ دار زید کو عیار و مکار و دلال کہنے کی وجہ سے سخت گناہ کار۔ حق الحبد میں گرفتار ہیں ان پر توبہ لازم اور زید سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ **واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب**

کتبہ

محمد افضل رضوی

مرکزی دارالاقفۃء ۸۲۔ سوداگران بریلی شریف

۱۵ ارشاد المکتمل ۱۳۲۹ھ ۱۶ اکتوبر ۲۰۰۸ء

**صحیح الجواب: واللہ تعالیٰ اعلم**

فقیر محمد اختر رضا از ہری قادری غفرلہ

**صحیح الجواب: واللہ تعالیٰ اعلم**

قاضی محمد عبدالریحیم بستوی غفرلہ

### (۱۳) گاؤں میں جمعہ کی نماز کا حکم

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ہمارا گاؤں سالار پور کلاں جو کہ  
شبل سے چار کلو میٹر کے فاصلے پر ہے اس گاؤں کی آبادی تقریباً ۱۵۰۰ ہزار  
ہے اس بستی میں پانچ مسجدیں ہیں ہر مسجد میں مدت دراز سے جمعہ ہوتا چلا  
آ رہا ہے زید جو کہ جامع مسجد کا امام ہے اس نے دور کعت نماز ہنام جمعہ ادا  
کرنے کے بعد چار کعت ظہر باجماعت ادا کرائی اور لوگوں نے باخوشی  
پڑھی اور دو یا تین لوگ دوسری مسجد میں چلے گئے۔ اور عمر و جو اس بستی کی  
مدینہ مسجد میں امام ہے اور خود عالم ہے اس کا کہنا ہے کہ مفتی نظام الدین اور  
فتاویٰ رضویہ کے فتویٰ کی روشنی میں گاؤں میں جمعہ جائز ہے زید کے معلوم  
کرنے پر عمر نے جواب دیا کہ مسئلہ وہ ہی ہے جو آپ کرتے ہیں لیکن  
اختلاف کی وجہ سے یہ لوگوں کو نہیں بتایا جائیگا اور جب عوام نے دونوں کی  
گفتگو کو سنتا تو کہا کہ بریلی سے فتویٰ منکالیا جائے اور جو وہاں سے حکم ہو گا اس  
پر عمل کر لیا جائیگا؟

دوسری مرتبہ بحث کے درمیان عمر نے کہا کہ اب تک میں جمعہ اور  
ظہر دونوں کو فرض کی نیت سے پڑھتا تھا مگر اب میں ظہر نہیں پڑھوں گا بلکہ  
صرف فرض جمعہ ادا کروں گا اور بعد میں ۲ سنتیں پڑھوں گا، اور عمر یہ کہتا ہے کہ جس  
بستی میں اتنی آبادی ہو کہ گاؤں کے سارے لوگوں کو اگر گاؤں کی بڑی مسجد  
میں جمع کیا جائے تو وہ اس میں نہ سامنے کیں تو اس بستی میں جمعہ جائز ہے؟  
جواب عنایت فرمائیں اور عند الفقهہ ماجور ہوں!

### امستقی: مسلمان سالار پور سنجھل

الجواب ۸۶: اللهم هداية الحق والصواب: صحت جمعہ کے لئے شہر شرط ہے۔ گاؤں، دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہدایت میں ہے ”لاتصح الجمعة الافی مصر جامع او فی مصلی ولا تجوز فی القری لقوله علیہ السلام لا الجمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اضحي الافی مصر جامع“ فتاویٰ رضویہ میں ہے ”دیہات میں جمعہ ناجائز ہے اگر پڑھیں گے گنہگار ہوں گے اور ظہر ذمہ سے ساقط نہ ہوگا“ فتاویٰ امجدیہ میں ہے ”دیہات میں جمعہ ناجائز ہے کہ جمعہ کے لئے مصر یا فناۓ مصر شرط ہے“ بہار شریعت میں ہے ”جمعہ گاؤں میں جائز نہیں“ فتاویٰ مصطفویہ میں ہے ”گاؤں میں جمعہ ناجائز ہے“ فتاویٰ احلیہ میں ہے ”جس گاؤں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو بخلاف مصالح دینی کے اسے بند نہ کیا جائے لیکن ان لوگوں کو فرض ظہر پڑھنا فرض ہے“ فتاویٰ فیض الرسول میں ہے ”بے شک دیہات میں جمعہ کی نماز جائز نہیں“ عمر نے شہر کی جو تعریف بیان کی وہ نامعتبر ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے ”کہ شرح و قایہ و مجمع الآخر میں تصریح فرمائی کہ شہر کی یہ تعریف محققین کے نزد یک صحیح نہیں“ دوسری جگہ فتاویٰ رضویہ میں ہے مصر کی جو تعریف کہ جس کی اکبر مساجد میں وہاں کے اہل جمعہ نہ سائیں اپنے ظاہر معنی پر ہمارے ائمہ ٹلکھ کے مذہب متواتر کے خلاف ہے و اہذا محققین نے اسے رد فرمایا“ ہدایت میں مصر کی تعریف یہ ہے ”والمصر الحامع کل موضع لہ امیر و قاض ینفذ الاحکام و یقیم الحدود“ فتاویٰ رضویہ میں ہے ”صحیح تعریف شہر کی یہ ہے ”وہ آبادی جس

میں متعدد کوچے، دوامی بازار ہوں، ندوہ جسے بیٹھ کہتے ہیں اور وہ پر گنہ ہے کہ اس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہوں اور اس میں کوئی حاکم مقدمات رعایا فیصل کرنے پر مقرر ہو جائی گی حشمت و شوکت اس قابل ہو کہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے جہاں یہ تعریف صادق ہو وہی شہر ہے اور وہ ہیں جمعہ جائز ہے ہدایہ و فتاویٰ رضویہ کی عبارات سے منقی ہر خاص و عام پر محلی کہ شہر وہی ہے جہاں دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے فیصل مقدمات کے لئے کوئی حاکم مقرر ہو جو مظلوم کا انصاف ظالم سے لینے پر قادر ہو۔ جب سالار پورا یا نہیں تو گاؤں ہے اور گاؤں میں جمعہ دور کعت پڑھ کر ظہر ضرور پڑھیں۔ شامی میں ”لوصلوافي القرى لزم هم اداء الظهر“ اور فرض ظہر بجماعت پڑھیں کیونکہ ظہر پڑھنا فرض اور جماعت واجب مسجد میں موجود، جماعت پر قادر، پھر بھی تہبا پڑھیں گے تو فرض ادا ہو جائیگا مگر تارک جماعت ہو کر گنہگار ہوں گے مدینہ مسجد کا امام عالم ہے پھر بھی خلاف شرع بولتا اور آئندہ فرض چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اگر فرض ظہر ترک کرے گا تو تارک فرض ہو کر گناہ کبیرہ کا مرتكب ہو جائیگا پھر لا اُن امامت بھی نہ رہیگا۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے ”البتة وہ عالم کہلانے والے کہ نہ ہب امام بلکہ نہ ب محملہ ائمہ حنفیہ کو پس پشت ذاتے، تصحیحات جما ہیر ائمہ ترجیح و فتویٰ کو پیشہ دیتے اور ایک روایت نادرہ مرجوحہ مرجوحہ عنہا غیر صحیح کی بنا پر ان جہاں کو وہ میں جمعہ قائم کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں یہ ضرور مخالفت نہ ہب کے مرتكب اور جہلا کے گناہ کے ذمہ دار ہیں“ علماء کا یہ کہنا کہ فتاویٰ رضویہ کے فتویٰ کی روشنی میں گاؤں میں جمعہ جائز ہے ”غلط“ ہے جیسا کہ

عبارات مذکورہ سے ظاہر و باہر۔ رہی مفتی نظام الدین صاحب کے فتوے کی  
بات توجہ یاد رہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیق کے آگے کسی کی تحقیق معتبر  
نہیں۔ حضرت مفتی شریف الحق صاحب امجدی صدر مفتی جامعہ اشرفیہ  
مبارک پور تحریر فرماتے ہیں ”اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی نص کے بعد کسی نص کی  
 حاجت نہیں، لہذا اسلام پور میں بنام جمعہ دور رکعت پڑھ کر چار رکعت فرض  
ظہر جماعت سے پڑھیں فتاویٰ عالم گیری میں ہے“ و ————— ن لا  
تحبب عليهم الجمعة من اهل القرى والبوادي لهم ان يصلو  
الظہر بجماعۃ یوم الجمعة“ و اللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ

محمد افضل رضوی

مرکزی دارالافتاء ۸۲ رسواداً گران بریلی شریف

۳۲ شوال ۱۴۲۶ھ

الجواب:- و اللہ اعلم با صواب  
فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ

### (۱۳) قعدہ اولی بھولنے پر کیا کرے

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ اگر کسی شخص نے چار رکعات نفل نماز پڑھی اور دوسری رکعت پر بھول کر قعدہ اولی نہیں کیا چوپھی رکعت کے قعدہ میں سلام پھیر کر بجھدہ ہو کر لیا تو اس کی نماز مکمل ہوئی یا نہیں؟

زید کا کہنا ہے کہ اس کی چار رکعت مکمل نہیں ہوئی بلکہ پہلی دو رکعتیں فاسد ہوئیں اور آخر کی دور کعتیں صحیح ہو گئیں کیونکہ نفل کا ہر قعدہ قعدہ اخیرہ ہوتا ہے اور نفل کی ہر دور کعت نماز علیحدہ ہوتی ہے۔ لہذا جب اس میں پہلی دور کعتوں سے متصل قعدہ اولی نہیں کیا جو کہ در حقیقت قعدہ اخیرہ تھا تو پہلی دور کعتیں باطل ہو گئیں اور اس پر بعد والی دور کعتوں کی بنا صحیح ہو جائے گی چونکہ تحریمہ اب تک باطل نہیں ہوا ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ ”شرح وقایہ“ میں ہے نفل کی ہر رکعت میں قرأت کرنا فرض ہے لہذا اگر پہلی دور کعتوں میں قرأت نہیں کیا اور بعد والی میں کیا تو امام اعظم کے نزدیک شروع کی دور کعتیں فاسد ہوئیں اور آخر کی دو کعتیں صحیح ہو گئیں۔ مذکورہ مسئلہ میں پہلی والی دور کعتوں کے فساد کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا معنی فساد ادا ہے یعنی ان کی ادائیگی فاسد ہو گئی نہ کہ نفس نماز۔ اگر نفس نماز کا فساد مراد ہوتا تو پھر آخر کی دور کعتوں کی بنا فاسد پر درست نہیں ہو گی۔ کیونکہ بناء علی الفاسد فاسد ہے۔ اسی طرح ”عامگیری“ میں قعدہ اولی کے مسئلہ کے متعلق لافت فساد صلات لکھا ہے

اس میں بھی یہی معنی مراد ہے۔

تیسرا دلیل یہ ہے کہ تراویح کی نمازوں کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بیس رکعتیں ایک ہی قعدہ سے پڑھیں تو اس کے لئے صرف آخر کی دور رکعتیں صحیح ہوئیں اور بقیہ ۱۸ ارباطل اس مسئلہ میں بھی ۱۸ فاسد رکعتوں پر آخر کی دور رکعتوں کی بنا جو صحیح ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر رکعات کی ادائیگی فاسد ہوئی نہ کہ نفس نماز اسی طرح چار رکعات والی نفل نماز میں قعدہ اول نہیں کیا تو اول کی دور رکعتیں فاسد ہوئیں اور لا تفسد صلاتہ کا معنی یہ ہے کہ آخر کی دور رکعتیں فاسد نہیں ہوئیں بلکہ پہلی دور رکعت فاسد ہوئیں دریافت طلب امر یہ ہے کہ مسئلہ مذکورہ کے متعلق زید کا جواب اور اس کے دلائل صحیح ہیں یا نہیں؟ دلائل شرعیہ سے آگاہ فرمائیں۔

امستقی:

محمد سلمان قادری

جامعة الرضا بریلی شریف

الجواب ۹۲/۷۸۶:- اللهم ارنا الحق والباطل باطلا بصورت مسؤولہ میں چار رکعت نفل بلا شبه درست ہو گئے۔ ”فتاویٰ ہندیہ“ میں ہے رحل صلی اربع رکعات تطوعاً ولم يقعده على رأس الركعتين عاصم الانتقام صلواته استحساناً۔ ”نور الايضاح“ میں ہے واذا صلی نافلة اکثر من رکعتین ولم يجعلس الا في اخرها صحيحاً استحساناً لأنها صارت صلاة واحدة۔ اسی کے تحت ”مراتي الفلاح“ میں ہے لأن التطوع كما شرع رکعتين شرعاً أيضاً ”رواتمار“ میں ہے

وکون کل شفع صلاۃ علی حدة لیس مطر دافی کل الاحکام و لذالو ترک القعلة الاولی لاتفسد خلافاً للمحمد۔ ”بہار شریعت“ میں ہے چار رکعت نفل پڑھے اور قعدہ اولی فوت ہو گیا بلکہ قصداً بھی ترک کر دیا تو نماز باطل نہ ہوئی۔

رہازید کا یہ قول کہ ”نفل کا ہر قعدہ قعدہ آخرہ سے اور اس کا ترک پہلی دور رکعت کے بطلان کا سبب ہے“ غلط ہے۔ قیاس کا مقتضی تو یہ تھا کہ چاروں رکعتیں فاسد ہوں ”ہندیہ“ میں ہے و فی القياس تفسد مگر تینیں علیہما الرحمہ نے احساناً چاروں رکعت کی صحت کا حکم فرمایا ہے جیسا کہ ہندیہ کا صریح بجزئیہ گزر اور اصول کا قاعدہ کلیہ ہے المطلق یحری علی اطلاقہ کہ مطلق اپنے اطلاق پر ہی محمول ہو گا اور اس میں بے دلیل تقیید مقبول نہیں ہوگی۔

پھر فتاویٰ میں تفصیل حکم بیان ہوتا ہے والذی یکون مشتملاً علی الفروع المناسبة والمسائل المتکثرة یقال له الفتاوی (تقدیم نور الایضاح) ان کا حال متون کی طرح نہیں جن میں ایجاز و اختصار منظور ہوتا ہے۔ یہ دوسرا قرینة اس بات کا ہے کہ یہاں حکم مطلق ہے اور اطلاق حکم خود عبارت سے ظاہر ”والنصوص تحمل على ظواهرها“ ہاں احسان یہاں قیاس خفی ہے جس کا مقتضی یہ ہے کہ چار رکعت نفل اگرچہ ابتداء نفل ہیں اور ان کا ہر قعدہ فرض ہے لیکن ایک اعتبار سے وہ صلاۃ واحدہ کے حکم میں ہیں جیسا کہ نور الایضاح کا صریح بجزئیہ گزر انانہا صارت صلاۃ واحدہ اس لئے دو رکعت پر سلام پھیرنے کا حکم نہیں بلکہ بغیر سلام پھیرے تیری

ركعت کے لئے کھڑا ہوا اور چوتھی رکعت ملائکر سلام پھیرے اور نماز سے باہر ہو کیونکہ ابھی وہ نماز میں ہے۔ بایس وجہ اس کو تیری رکعت کے لئے نبی تحریک کی ضرورت نہیں بلکہ پہلی ہی کافی ہے۔ یہ وجہ ان کے صلاة واحدہ کے حکم میں ہونے کے موید ہیں اور قاعدہ مسلمہ ہے کہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا واجب اور صلاة واحدہ سے مشابہت کی وجہ سے قعدہ اخیرہ قعدہ اخیرہ نہ رہا بلکہ قعدہ اولیٰ کے حکم میں ہو گیا ”حلبی“ میں ہے کہ نفل کی ہر دور رکعت پر قعدہ فرض لعینہ نہیں بلکہ فرض لغیرہ ہے۔ لان القعدة على راس الركعتين من النفل لم تفرض لعینها بل لغيرها وهو الخروج على تقدير القطع على راس الركعتين فلمالملم يقطع جعلهما اربعاء ولم يات او ان الخروج فلم تفرض القعدة۔ ”نور الايضاح“ کے مذکورہ جزئیے لانها صارت صلاة واحدة پر عُشی نے ”رود المختار“ کے حوالہ سے تحریر کیا ہے (صارت) ای جعلها بقیامہ صلاة واحدة فتبقى القعدة واجبة اور قعدہ اولیٰ نفل میں بھی اصح قول پر واجب ہے بہار شریعت میں واجبات نماز گناتے ہوئے بائیسوں نمبر پر فرمایا ”قعدہ اولیٰ اگر چہ نفل نماز ہو“۔

”رود المختار“ میں ہے والقعود الاول ولو فى نفل فى الاصح“ ولو فى نفل پر علامہ شامی روا المختار میں تحریر فرماتے ہیں۔ لانہ کان کل شفع منه صلاة على حدة حتى افترضت القراءة في جميعه لكن القعدة انما فرضت للخروج من الصلاة قام الى الثالثة تبين ان ما قبلها لم يكن او ان الخروج من الصلاة فلم تبق القعدة فريضة لہذا اس کی چاروں رکعتیں ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں کہ پہلی والی دونہ ہوں اور بعد

والی ہو جائیں۔ ”طحاوی علی المراتق“ میں ہے هذا الكلام صریح فی انها تحسب بتمامھا له خلافاً لمن قال انها تحسب شفعاً واحداً۔ زید کی دوسری دلیل بھی صحیح نہیں جس میں اس نے ”نفل کی ہر رکعت میں قرأت فرض ہے“ پر قیاس کیا ہے کیونکہ یہ قیاس مع الفارق ہے باسیں وجہ کہ نفل کی ہر رکعت میں قرأت فرض لعینہ ہے اور نفل کا قعدہ اولیٰ فرض بغیرہ بلکہ اصح قول میں واجب ہے۔

اور اس کی تیسری دلیل ”کہ کسی نے ۲۰ رکعت تراویح ایک قعدہ اور ایک سلام سے پڑھیں تو ۱۸ ارباطل ۲ صحیح ہوں گی“ ایسا نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ۲۰ رکعت تراویح ایک سلام سے پڑھیں اور ہر دو رکعت پر قعدہ کیا تو سب کے نزدیک ہو گئیں اور اگر ہر دو رکعت پر قعدہ نہ کیا بلکہ آخر میں قعدہ کیا تو قول صحیح میں استحساناً ایک سلام سے نماز تراویح ہو جائے گی۔ ”ہندیہ“ میں ہے وصلی التراویح کلہا بتسلیمیہ واحده ان قعدوں کیل رکعتین یسحوز عند الکل و ان لم یقعد في كل رکعتین و قعد في اخرها ففي الاستحسان على القول الصحيح يجزيه عن تسليمه واحدة كذا في السراج الوهاج۔ ”درختار“ میں ہے (وھی عشرون رکعة بعشر تسليمات) فلو فعلها بتسلیمہ فان قعد لکل شفع صحت بکراهة والانابت عن شفع واحدہ یفتی۔ اور بہ یفتی پر علامہ شامی ”درختار“ میں فرماتے ہیں لم ار من صرح بهذا اللفظ هذا۔ ”فتاویٰ تاتارخانیہ“ میں ہے و ان لم یقعد في كل رکعتین و قعد في اخرها ففي القياس وهو قول محمد وزفر تفسد صلاتہ ولا یجوز عن شيء وفي الاستحسان على القول

الصحيح يحزيه عن تسلية واحدة وفي البنا بيع وهو الاصح قبل عند ابى حنيفة وابى يوسف يحزيه عن الكل - زيد نے مسئلہ تراویح کی نوعیت نہیں سمجھی یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور شیخین کے نزدیک کل تراویح ہو جائیں گی ۔ اور اس کا اثمارہ کے بطلان کا قول باطل ہے کہ امام کے نزدیک باطل نہیں ہوں گی کچھ کے نزدیک نفل ہو جائیں گی ۔

جب یہ مسئلہ میرے سامنے آتا تو میں نے حکم شرع جزئیات کی روشنی میں زبانی بیان کر دیا ۔ جس پر زید کے اعتراضات سامنے آئے ۔ تب فقیر نے یہ مسئلہ اور اس پر فقهاء کے مصراج جزئیات کریم ابن کرام افیہ ابن فقهاء، استاذی و شیخی، نظری لیومی و غدیری، تاج الشریعہ، قاضی القضاۃ مفتی، فقیہ محمد اختر رضا قادری از ہری مدظلہ العالی کی بارگاہ میں پیش کئے حضور نے ان کو بغور ساعت فرمایا کہ بر جتنا پی زبان فیض ترجمان سے اصول کے کلیات، اور ان نوافل کی صلاة واحده اور واجب سے مشابہت بیان فرمایا کہ فقیر کی تائید فرمائی ۔ اور اگر میں یہ کہوں تو یقیناً بے جا نہیں بلکہ بجا ہے کہ جو کچھ فقیر نے تحریر کیا یہ سب حضور کا ہی فیضان کرم ہے ورنہ من آنم کہ من دانم اللهم ارزقنا طول حیاتہ، هذاما عندي والعلم بالحق عند الله والله تعالیٰ اعلم ۔

کتبہ

محمد افضل رضوی

مرکزی دارالافتاء ۸۲۴ رسوداگران بریلی شریف

رجاہی الآخری ۱۳۲۹ھ / ۲۰۰۸ء

الجواب صحیح والجیب نجح والله تعالیٰ اعلم :

مندرجہ بالا فتوے میں جو باتیں پہلے ذکر ہوئیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چار رکعات والی نفل نماز صلاۃ واحدہ کے حکم میں ہے۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے خیال کی صریح تائید مندرجہ بالا عبارتوں سے ہوئی جو اس فتوے میں درج ہیں، عبارات مذہب بلاشبہ مطلق ہیں اور ان کا اطلاق پیشک ظاہر ہے اس میں تقيید اصول فقہ کی مخالفت تو ہے ہی، مذہب خفی جس کے ہم مقلد ہیں سے عدول بھی نقص وقت ہے۔ اس سلسلے میں ترک قراءت سے متعلق جو عبارت پیش کی جاتی ہے بے محل ہے اس اصل پر قعدے کا قیاس سرا سرہب خفی کے خلاف ہے۔

مندرجہ بالا عبارتوں سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں امام اعظم نے اپنی اس اصل پر تمثیل نہ فرمائی جو ترک قراءت کے باب میں ذکر ہوئیں۔ مخفی اتنی بات کہ قعدہ اور قراءت دونوں فرض ہیں، ایک دوسرے کی نظیر بننے کے لئے کافی نہیں، اور اس کا جواب گزارا کہ چار رکعت والی نماز میں قعدہ اولی فرض لعینہ نہیں ہے اور یہ بھی گزارا کہ یہ اصل کے نفل کی ہر دو رکعت علیحدہ نماز ہے مطروہ نہیں لہذا نظیر پیش کرتے وقت اس کا لحاظ ضروری ہے دیکھا جائے کہ جس کو نظیر بنایا جا رہا ہے وہ کسی وجہ سے اپنے مماٹی سے مختلف تو نہیں اور اصل مطرد ہے اور وہ اصل میں مندرج ہے یا اس سے خارج ہے پھر یہ ہماری فہم سے بالاتر ہے کہ شفعت اول کی کسی ایک رکعت میں قراءت چھوٹے تو دور رکعتوں کی قضا کیوں لازم فرمائی جاتی ہے ایک رکعت کی قضا کا حکم کیوں نہیں فرماتے اور جب یہی حضرات چار رکعت والی نفل کو صلاۃ واحدہ قرار دیتے ہیں تو ساری نماز کیوں نہیں فاسد ہوتی اور باقی دو رکعتوں کے حق میں تحریکہ کیوں باقی رہتی ہے اس کا جواب ہمیں مل جائے تو

رب قادر کا ان ائمہ مذہب کے ویلے اور طفیل سے ہم پر احسان عظیم اور بصورت دیگر اگر ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو ہم بحکم اطیبعو اللہ والرسول واولی الامر منکم اس اصل کو بے دلیل مانتے ہیں اور جب یہ بات ہے کہ اس کی دلیل ہمیں معلوم نہیں تو گویا وہ ہمارے حق میں ایک حکم تعبدی ہے جس کا اور اک محل دیگر میں ہم نہیں کر سکتے۔ اور اس کی دلیل مجتہد کے پاس جانتے ہیں ہمارا منصب یہی ہے کہ ہم کتب مذہب پر اعتماد کریں اور اپنے مذہب پر رہیں خصوصاً جس قول کے متعلق یہ تصریح ہو کہ یہ ہمارے امام کا مذہب ہے اور جن امور میں ہمارے امام اعظم کی تصریح منقول نہیں ان میں ہمیں طبقہ مقلدین میں جو ائمہ ترجیح و ترجیح ہیں ان کا اتباع لازم ہے اما نحن فعلینا اتباع ما صححوه و ما رجحه کمالو افتونا فی حیاتهم کذا فی الدر المختار۔ اس مسلمہ میں تراویح پر جو قیاس کیا جاتا ہے اس کا جواب بھی مندرجہ بالاعبارتوں سے ظاہر ہے ”طحاوی علی المراتی“ میں ہے ولا یسافیہ ماذکره ابن امیر حاج فی بحث التراویح لو صلی اللہ بسلام واحد و لم یقعد الافی اخوها اختلف المشائخ والصحیح انه یجزیه عن تسليمه واحدة کمالو صلی اربعاء بتسلیمة واحدة و لم یقعد على راس الرکعتین على ما هو الصحیح لانه في التراویح خاصة لكونها شرعاً على هيئة مخصوصة فلا تؤدى بغيرها فالمعنى توب عن رکعتین من التراویح و ان كانت تحسب له عشرين نافلة۔ اس عبارت سے ناظرین پر روشن ہے کہ اس میں کیا اختلاف ہے اور کیا تفصیل۔ فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ

## (۱۵) لا وڈا پسکر پر نماز پڑھنے کا حکم

حضور مفتی صاحب السلام علیکم ورحمة مرکزی دارالاافتاء بریلی شریف  
 کیا فرماتے ہیں علمائے دین مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ  
 میں بر جو نالہ کے آس پاس یعنی مسجد قادریہ مسجد الفردوس مسجد المصطفیٰ مسجد  
 ارم مسجد مخدومیہ مسجد اسراریہ ایک اور نئی مسجد بنی ہے اس کے علاوہ ٹیبا برج کی  
 تمام مسجدیں اہل سنت والجماعت کی مسجدیں ہیں صرف دو تین مسجد چھوڑ کر  
 اور امام بھی اکثر رضوی حضرات ہی ہیں ماںک یا ساوٹ بکس سے جمعہ و  
 عیدین کی نماز پڑھاتے ہیں اور کہیں کہیں رمضان شریف میں نماز تراویح  
 میں ماںک استعمال کرتے ہیں مسجد رضا بر جو نالہ میں ماںک یا ساوٹ بکس کا  
 استعمال کسی نماز میں نہیں ہوتا ہے جو حضرات ماںک یا ساوٹ بکس سے نمازیں  
 پڑھاتے ہیں ان پر شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے دوسرا سوال بر جو نالہ میں ایک  
 بہت بڑی عید گاہ ہے (۲۰ ہزار مربع فٹ) جنم غیرہ کا جمیع ہوتا ہے کیا ساوٹ  
 بکس سے نماز پڑھاسکتے ہیں اور جمعہ میں مسجد میں تقریر و دعا و خطبہ ماںک  
 سے پڑھ سکتے ہیں؟ میں تو جروا

فقط

محمد مقبول النصاری

۲۶۔ ۱۰۹۔ ۲۳۔ ڈاکٹر اے۔ کے۔ روڈ کولکتہ

۷۔ اگست ۲۰۱۳ء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحواب اللهم هداية الحق والصواب (۱) ساواز بکس ولا اوڑا پیکر کی آواز متكلم کی عین آواز نہیں ہوتی اس لئے محض لا اوڑا پیکر یا ساواز بکس سے سنی گئی آواز پر اقتداء صحیح نہیں اس لئے کہ نماز ایک عبادت مقصودہ و خالصہ ہے اس میں ہر ذمی روح غیر مقتدی، اور غیر ذمی روح بر قی طاقت وغیرہ دخیل ہو کر نماز کی فساد کا باعث ہو سکتی ہیں پھر یہ کہ بکیر وہی کہہ سکتا ہے جو شریک نماز ہو اگر نماز سے باہر کسی نے تجھیں کہیں اس پر نمازوں نے عمل کیا تو نماز نہ ہوئی اور یہاں اتنی بات ہر ایک کو مسلم ہے کہ لا اوڈا پیکر نہ خود امام و مکبر اور نہ اس میں اسکی اہمیت موجود تو اگر اس کی آواز پر اقتداء ہوئی تو خارجی آواز پر اقتداء ہوگی اور اس طرح تلقن من الخارج ہوا جو نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”وان فتح غیر المصلى على المصلى فاخذ بفتحه تفسد كذا في منية المصلى“ اسی میں ہے ولو سمعه المؤتم منمن ليس في الصلاة ففتحه يجب أن تبطل صلاة الكل لأن التلقين من خارج كذا في البحر الرائق ناقلا عن القنية (من العاج الاول) مذکورہ جزئیات سے صاف روشنی پڑتی ہے کہ لا اوڈا پیکر کی آواز پر ابتداء کرے سے نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ یہ صدائے بازگشت ہے۔ جو بر قی طاقت مشینوں کے ذریعہ یونٹ سے ٹکرانے کے بعد بلند ہو کر واپس ہوتی ہے جس کو فقهاء حاکاۃ کہتے ہیں جو خارجی اور منوی آواز ہے عند الشرع نماز میں اس کا کوئی اعتبار نہیں فتاویٰ شامی میں ہے ”و كذا لك المبلغ اذا فقد التبليغ فقط خاليا عن قصد الأحرام فلا صلاة له ولالم من يصلى بتبليغه في هذه الحالته أنه اقتدى بمن لم يدخل

في الصلاة (من العاج الاول)

اور فتاویٰ احمدیہ میں ہے ”اللہ مکبر الصوت سے خطبہ نماز میں  
حرج نہیں مگر اس کی آواز پر رکوع و سجدہ کرنا مفسد نماز ہے (ص ۱۹۰ ارج ۱۰۱)  
لہذا جو لوگ حفظ لاوڑا اپنیکر کی آواز پر اقتداء کریں گے ان کی نماز  
فاسد ہو گی بہر حال لاوڑا اپنیکر کا استعمال منوع و خلاف اختیاط ہے کہ بعض  
حالات میں مفسد نماز ہے۔

اور فساوی نماز بہر حال مظنة ہے اگر لاوڑا اپنیکر ایسا ہو کہ امام کو ماہک  
میں بتکلف آواز دالنا پڑے اور اس کے لئے عمل کشیر درکار ہو تو اس صورت  
میں کسی کی نماز نہ ہو گی پھر بھلی اچانک چلی جانے کی صورت میں یا اس کے  
سشم میں خرابی پیدا ہونے کی صورت میں امام کی حالت مقتدیوں پر مشتمل  
ہونے کا قوی اندر یہ ہے اور بسا اوقات یہ صورت رونما ہوتی ہے جو فساوی نماز  
کا باعث ہے تو لاوڑا اپنیکر کا استعمال اس لحاظ سے نماز میں ضرور خلاف  
اختیاط و منوع ہے جو لوگ بے جبر خود رغبت سے لاوڑا اپنیکر سے نماز  
پڑھاتے ہیں ضرور طزم ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) حفظ لاوڑا اپنیکر سے امام کی اقتداء نماز کو فاسد کر دیتی ہے خواہ  
عین گاہ میں ہو یا مسجد میں، نماز فرض ہو یا واجب و توفیق۔ رسول کائنات صلی  
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کشیر کے وقت مکبرین کے قیام کا حکم فرمایا  
ہے لہذا مذکورہ مساجد کے ائمہ و منتظرین کو چاہیئے کہ ضرورت کے وقت  
مکبرین کا انتظام کیا کریں اسی میں احیائے سنت و رفع بدعت و فساد  
ہے۔ شرعی کوںل آف انڈیا بریلی شریف ۲۰۰۳ء کے فقیہی سینمار میں لاوڑا

اپنے کریم اقتداء میں نماز کے عدم جواز پر علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہو چکا ہے لے  
اب اس کے خلاف جائز ہیں ہاں لا اؤڈا اپنے کریم سے خطبہ، دعا، تقریر  
وعظ و نصیحت وغیرہ جائز ہے اس میں کوئی حرج و قباحت نہیں کہا ذکرت  
آنفا و علیہ علماء نا والفتوى - والله تعالیٰ اعلم

کتبہ

محمد مناف رضوی مرکزی

خادم مرکزی دارالافتاء ۸۲ سوداگران بریلی شریف

۲۲ روشان المکرم ۱۴۳۲ھ

صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اندر رضا قادری از ہری

صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

محمد انفال رضوی

صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

محمد ناظم علی قادری بارہ بیگی

صحیح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم

غلام مصطفیٰ رضوی

مرکزی دارالافتاء بریلی شریف ۸۲ کیگران

اور وہ ایڈیشن ہے۔

(۱) لا اؤڈا اپنے کریم کی عین آواز نہیں ہے اس لیے محض لا اؤڈا اپنے کریم سے مسونع آواز پر اقتداء ہم احباب کے نزدیک صحیح نہیں بالفرض یہ آواز نہیں ہوتی بھی حکما یہ اصل آواز نہیں لپڑا اب بھی محض اس آواز پر ابتداء درست نہیں ہوگی۔

(۲) جمال کہنی نماز میں لا اؤڈا اپنے کریم کا استعمال پر لوگ جو کرسی وہاں تکہریں کا بھی انتظام کر جائے اور متفقہ ہوں کو مسئلہ صورت سے آگاہ کرتے ہوئے پڑائیں کی جائے کہ وہ لا اؤڈا اپنے کریم کی آواز پر اقتداء کر کے تکہریں کی آواز پر اقتداء کریں۔

(۳) اسی طرح تکہریں کو بھی پڑائیں کی جائے کہ وہ بھی لا اؤڈا اپنے کریم کی آواز پر اقتداء کریں۔

(۴) کہنی کر مقدر کرنے کی بھی صورت نہیں تو امام مسئلہ تدارے وہ اس طبقہ امامت سے تعلقی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اعلم (عن دینی مارچ ۱۹۷۰ء خصوصی شمارہ شرعی کوسل آف اٹیکیا کے اکیس اہم فیصلے ص ۲۷)

(معظم بیک رضوی)

ملنے کا پتہ

مکتبہ المصطفیٰ اسلامیہ مارکیٹ نو محلہ مسجد بریلی شریف

موباکل نمبر: 9219869490

Rs. 40/-

